

<https://ataunnabi.blogspot.com/>

انسانیت پر بھائیں

بُلْدَات اور بُلْمَریں



امداد و نفع شفای عالم از ایام است
محترف سیالی: پیر



Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

وَمِنْ بَشَّرَهُ أَنَّا تَعْلَمُ كُلَّ خَلْقٍ
وَمِنْ بَشَّرَهُ أَنَّا لَمْ يَعْلَمْ كُلَّ خَلْقٍ

انسی پیشائیں
بیوں بیوں

اور

شارٹ سید زین
بیوں بیوں

ابوالحنف علاء محمد شرف باری



Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بصورۃ الحقائق کیتھی میر غوث جیس

امیاں سماں فتحیں	بھر بھر اساتھ سہہ الم طبع	ڈمکٹ
شیخ احمد بنت حرام	جعفر اشرف پیارلوی	صف
لکھاں صاحب اقبالی	لکھاں صاحب اقبالی	ڈمکٹ
2005	جن	ڈمکٹ
1100		ڈمکٹ
(ٹیکسٹ ڈیجیٹائز کیا گیا)		ڈمکٹ
۱۰		ڈمکٹ

ملنے کے پتے

0451-724695 ڈیکھنے کے لئے ڈیکھنے کے لئے

کی مدد میں مصطفیٰ نوری، مصطفیٰ عاصم، مصطفیٰ علی، مصطفیٰ علی

0300-6618292, 6639539 ڈیکھنے کے لئے ڈیکھنے کے لئے

042-7312173 ڈیکھنے کے لئے ڈیکھنے کے لئے

041-626046 ڈیکھنے کے لئے ڈیکھنے کے لئے

042-7324948 ڈیکھنے کے لئے ڈیکھنے کے لئے

051-5558320 ڈیکھنے کے لئے ڈیکھنے کے لئے

Click

فہرست مضمون

نمبر شمار	مختصر مضمون	صفحہ نمبر
۱	حرف آغاز	۶
۲	اَوَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ شُورِيْہٰ اور انجل مقدس	۱۸
۳	انگوٹھے چومنے کا ثبوت	۲۳
۴	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور انجل مقدس	۲۶
۵	شان لاک اور انجل مقدس	۲۸
۶	مقدس محمد رسول اللہ کی آمد اور برائت مسیح	۳۶
۷	رسول مخلص کو چاند کی لوریاں دینا اور چاند کو ان کا مشیوں میں لینا	۳۳
۸	شیخ ملا دکی تغظیم اور اس سے حوصل برکت	۳۵
۹	سالانہ جو بیلی یا جشن عید میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	۴۸
۱۰	پیغمبر آفرانزمان کا فضائل میں انبیاء علیہم السلام سے سرجذ حصہ وصول فرمانا	۵۰
۱۱	خدا مئے تعالیٰ سورج اور رسول خدا علیہ السلام چاند	۵۲
۱۲	منصب رحمۃ اللعالمینی	۵۳
۱۳	پیغمبر آفرانزمان کے خصوصی علامات کا بیان	۵۹
۱۴	پیغمبر آفرانزمان اور رسول موعود کا نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہونا	۶۶
۱۵	بارگاہِ مصطفوی میں علی علیہ السلام کی نہایت تو افسوس دانکساری اور بعثت بسمیلی کی بشارت۔	۷۱
۱۶	حضرت بخشی کا بارگاہِ مصطفوی میں مجرزاً اور آپ کی بشارت	۷۲
۱۷	Click آنفال	

نمبر شمار	مختصر مضمون	صفحہ نمبر
۸۰	کیا حوازی روح القدس سے بتیسمہ پانے والے تھے۔	
۸۱	کیا حضرت علیٰ علیہ السلام نے گیہوں بھروسی میں ایتاز کیا اور بھروسی کو جلا کیا حقوق اور روسی علیہ السلام کی طرف سے بشارت، قدوس کوہ فاران سے جلوہ ۶۷ گر ہوا۔	
۸۲	دنیا کا سردار آتا ہے	
۹۱	میا یوں کی تاویل اور اس کا رد	
۱۰۰	کیا حضرت علیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد آئے	
۱۰۳	کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت علیٰ علیہ السلام کے خیقی مقام سے بے خبر تھے۔	
۱۰۴	کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت علیٰ علیہ السلام کا مصداق سمجھا۔	
۱۰۵	بی اسرائیل کے بھائیوں سے ملیم اللہ علیہ السلام کی شلن بی کی بشارت	
۱۱۵	بی اسرائیل کے بھائیوں کی بحث	
۱۱۶	خدا کا کلام کس بی کے منہ میں تھا	
۱۲۰	کس بی کی بات نہ سنتے والوں کو کاٹ ڈالا گیا	
۱۲۲	بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدینؓ کی سلطنت کا بیان بزرگ حضرت	
۱۲۴	دانیال علیہ السلام	
۱۲۶	کیا اس سلطنت کے مالک مسیح ہیں	
۱۲۹	یسیاہ پغمبر کی زبانی بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور سلطنت اسلام	
۱۳۲	کی بشارت	
۱۳۲	حقوق بی کی بشارت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش اور سلطنت	
۱۳۲	اسلام سے متعلق	
۱۳۲	حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق	

Click

صفحہ نمبر	معاہدین	نہر شمار
۱۳۶	آسمان کی بادشاہی تزدیک آگئی۔	
۱۳۷	زبر شریف میں بشارت متعلق بر سلطنت مصلفی علیہ الرحمۃ والثنا ع	
۱۵۰	امت امیہ عربیہ کی بشارت	
۱۵۲	سیحان علیہ السلام کی بشارت سلطنتِ مصلفی اصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق	
۱۵۳	ارضِ حجاز اور کہ مکہ کے متعلق بشارات	
۱۵۴	پاکستان کی تیشیل اور زبی عربی مصلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت	
۱۶۵	سیا تو وہ نبی ہے۔	
۱۶۶	وہ نبی کیوں کہا	
۱۶۸	حضرت میں علیہ السلام کا احتراف کر میں وہ نہیں	
۱۸۲	کیا حضرت میں نبی موعود ہو سکتے ہیں۔	
۱۸۳		

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حروفِ آغاز

انبیاء کرام اور رسول عظیم نے اپنے دور میں توحید خداوند تعالیٰ اور اعلان رسالت کے بعد جو اہم کام سر انجام دیا وہ سرور انبیاء علیہ التحیۃ والثناۃ کی دنیا میں تشریف اوری کا اعلان تھا اور ہر نبی و رسول سے روز میثاق جو عہد کیا گیا تھا اس کو بجھتے ہوئے علیحدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت تو کے اذھان میں نقش کرنے میں کوئی دقیقہ فرود گذاشت نہ کیا اور یہ انہی قدسی صفات پیغمبر ان کرام اور ترجمان حقیقت کے انہیاں ریحیقت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہود جیسی اکھڑا اور ضدی قوم مشکل پیش آنے پر اپنے آباؤ راجداد اور اپنے انبیاء و رسول جن میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے علاوہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ کلیم و حضرت ہارون علیہم السلام جیسی شخصیات میں کی جائے اگر تو سل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جانب میں استعانت کرتے تھے تو پیغمبر آخر ازمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس سے آپ کی غلامی کا شرف حاصل کرنے کے لئے بنو النضیر اور بنو قریظہ سر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وار ہجرت میں آکر ڈیرے لگاتے نظر آتے ہیں اور ان کے اکابر مرتے وقت اصحابِ کو وصیت کرتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی میں اس بنی رحمت کا ظہور ہو جائے تو ہمارے متعلق تھرض کرنا کہ وہ تمہاری راہ میں آنکھوں کافرش بچھاتے رہے اور مساع عمر عزیز کو آپ کی انتظار پر ہی قربان کر گئے امہا روز حشران کو اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ شہنشاہ بیع محیٰ آپ کے لئے مکان تیار کر اتا اور آپ کی غلامی کا اعتراف ان

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

انفلویں کرتا ہوا نظر آتا ہے ع

شہدت علی احمدانہ۔ رسول من اللہ باری اللہ عنہ نبود عمری الی عمرہ۔ لکن لہ وزیر اوان عم ادھر شہنشاہ جب شہزادے حضرت جعفر طیار صنی اللہ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علیہ السلام کی بشارت کے مصداق "احمد مرسی" صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طوق غلامی اپنے گئے میں ڈالا نظر آتا ہے اور حضرت سلام فارسی صدیوں تک راہبوں کی صحبت اور خدمت کے صلہ میں یہی انعام پتے ہیں کہ ان کو سینم بر آزادان کے محل طہور اور دار ہجرت کا پتہ تباکر ادھر روانہ کر دیا جاتا ہے اور بالآخر وہ اس گوہر مقصود کو مدینہ منورہ میں پلیتے ہیں اور دل و جان سے قربان ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دفن نجراں کے عیانی اپنی تمام تر کج بخششوں کے بعد مبارہ میں یہ کہتے ہیں چہ پانی اختیار کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں اور ان کے ساتھ مبارہ کرنے سے ہم بلکہ ہماری قوم مجھی روئے زمین سے نیست ونا بود ہو کر رہ جائے گی اور جزیہ دے کر رعا یا بنے میں عافیت دیکھتے ہوئے غلامی میں آجلتے ہیں۔

قرأت کے حق پرست علماء حضرت عبد اللہ بن سلام اور کعب احبار اور دیگر اکابر انہیں بشارات کا مصداق آپ کو سمجھتے ہوئے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر حضرت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقة غلامی میں داخل ہوتے دکھانی دیتے ہیں۔

چلہئے تو یہ تھا کہ عالم اسلام کے محسینین صحابہ کرام اور تابعین نے جس طرح میدان کارزار میں اسلام کی صداقت اور حقانیت کا لوہا منوا یا اور زور بازو سے کفار و مشرکین اور ہیود و نصاریٰ سے ان کے ممالک چھپن کر ان میں اسلام کی تعلیمات کو جاری کر کے ان کو اسلام کی برکات سے مالا مال کر دیا اور نبی اُنیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا علام بنادیا۔ ہم مجھی اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں اسلام کی سرجنندی اور ترویج و اشاعت کے لئے صرف کرتے اور اہل عالم کو حلقة گاؤں شاہی اسلام علیہ السلام کرتے۔ لیکن بد قسمتی سے عالم اسلام کے باہمی افراق و انتشار سے جس طرح

Click

جہاد اور اعلاء کلمۃ اللہ کا وہ عظیم فرضیہ متروک ہوا تقریر و تحریر کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے اور دلائل و براہین سے اسلام اور بانی اسلام کی صداقت و حقانیت واضح کرنے کافر لیضہ بھی نظر انداز ہو گیا جسی کہ دشمنانِ اسلام نے ممالکِ اسلامیہ میں اپنے راکز قائم کر کے مسلمانوں کو رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی برگشۂ کرنا شروع کر دیا۔ اور قیامِ پاکستان سے کتابت تک انہوں نے اپنے اس ناپاک منصوبے میں سو فیصد سے بھی زیادہ ترقی حاصل کی۔ یہ تو صرف پاکستان کا حال ہے اور باقی ممالک کی حالت بھی کوئی اس معاملہ میں قابلِ داد و تحسین نہیں بلکہ دہائی خفقت مجرمانہ کا یہ سند اسی طرح ترقی پذیر ہے اور ہم ہیں کہ اس طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف ایک دسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں۔ ذہنی صلاحیت، زورِ قلم اور مالی وسائل سب یہی اختلاف انتشار کو وسیع کرانے میں صرف ہو رہی ہیں اور مخالفین اسلام کو کھلی جھٹی دے دی ہے بلکہ با واسطہ انہیں کا کام کرنے اور ان کے لئے فضا سازگار کرنے میں مصروف ہیں۔

بندوں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے بلکہ اس کا آغاز کیا ہے کہ دوسری طرف بھی انکھیں لکھوں کر دیجھا جاتے کہ خدمتِ اسلام کا کوئی دوسرا محااذ بھی ہے اور لوگوں کو یہ دست و نصرانیت کے جال میں پھنسنے سے روکنا اور بچانا اور قرآن مجید کو چھوڑ کر تورات و انجیل کی اتباع کرنے اور سید الابنیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ کر دوسرے انبیاء علیہم السلام کی علمی اختیار کرنے سے باز رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔

اور اس کی صرف یہی صورت اس وقت قابل عمل ہے کہ ہم ان کتب قریبہ اور انبیاء و مسلمین علیہم الصدّوقة والتسیلہ کی زبانی سرور انبیاء علیہ التحیۃ الثناء کی عظمت و حرمت اور قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کے دلائل و براہین ان کے سامنے رکھیں اور سید ارسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے ان کو آگاہ کریں اور خاتم رسالت کی نبوت اور خصوصیات ان و تباہیں جن کی وجہ سے آپ سلامہ نبوت و رسالت کے

Click

۱

خاتم وفاتح فرار پڑئے اور مخصوص دو حاصل تاکہ غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دوسرے بھی کی علمائی اختیار کرنے کا خیال تھک بھی نہ آسکے اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو محجوب کر پیدا علیہ التحیر و الشدہ کی عظمتوں کے آگے سرپیاز مجھ کا ناپڑے اور آپ کے طوق غلامی کو گلے میں ڈالتے پہی دارین کی فوز و فلاح نظر آئے۔

اس جذبہ کے تحت چند بشارات تورات و انجیل اور دیگر صحائف سے منتخب کر کے ہدیۃ ناظرین کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر سعی کو قبول فنائے اور بارگاہ و رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منظور نظر مطہر رئے اور اسے اہل ایمان ایقان کے ثبات و استقلال اور اہل کتاب کی ہدایت و ارشاد کا ذریعہ بنائے۔

وما ذاك على الله بعزيز وهو ولی التوفيق عليه تو سكت واليه
أنب وصلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین
والتابعین لهم بالاحسان الى دیوم الدین

محمد اثرف سیالوی خفرلہ

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ إِنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِّنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
سَيِّدِ الرَّسُولِينَ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ احْمَدُ الْحَادِيْنَ وَمُحَمَّدُ الْمُحْمَدِيْنَ
الْمُبَشِّرُ بِهِ فِي الْمُتْوَرَّةِ وَالْأَنْجِيلِ وَسَائِرِ صَحَافَتِ الْأَنْبِيَا وَالرَّسُولِينَ
وَعَلٰى أَلَّهِ وَاصْحَابِهِ الْكَامِلِيْنَ الْأَكْمَلِيْنَ وَالْتَّابِعِيْنَ لِهِمْ بِالْإِحْسَانِ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اصْبَعِ الدِّعَاءُ ! قُرْآنٌ مُجِيدٌ نَّمَّ مُتَعَدِّدَ مَقَامَاتٍ پِرْبَانِيِّ كَرِيمٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَمَا تَوَرَّتْ دُنْجِيلٌ مِنْ ذِكْرِهِ هُوَ نَمَّ اُورَأَيْلٌ كِتَابٌ كَمَا جَاءَ نَبِيٌّ پِرْبَانِيِّ نَبِيٌّ هُونَيِّ
كَمَا دُعُواً كِيَاهِيَّ اُورَ حَضْرَتْ عَلِيٌّ عَلِيِّ اِسْلَامٌ كَمَا اپَتَنَّ مُتَعَلِّقٌ اُعلَانٌ رَسَالَتْ كَمَا سَاتَهُ ہیِ
پِغْمِیرَ آخِرِ الزَّمَانِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ كَمَا تَشْرِيفٌ لَانَّ کَمَا اُعلَانَ کَرَنَے اُورِ بُشْرَتْ
دِینَے کَمَا دُعُواً کِيَاهِيَّ .

- ارشاد اونڈ تاریک و تعالیٰ ہے۔

الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبًا عند هو
في الموراة والانجيل يأمر هو بالمعروف وينهى عن المنكر
ويجعل لهم الطيبات ويختزم عليهم العذاب ويوضع عنهم
اصرهم والاعلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزّروه
ونصروه واتبعو النور الذي انزل معه اولئك هم المفاحرون
ترجمہ: وہ لوگ جو سردی کرتے ہیں اس رسول کی جو بنی اُمّتی ہے کہ

جن کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے ہاں تورات و انجیل میں وہ حکم دیتے ہیں ان کو نیکی کا اور منع کرتے ہیں براہی سے اور حلال ٹھہراتے ہیں ان کے لئے سب پاکیزہ چیزوں اور حرام ٹھہراتے ہیں ان پر ناپاک چیزوں اور آمارتے ہیں ان پر سے ان کے لوجه اور وہ پاپندیاں سخت جوان پر چھیں۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لئے اور ان کی تعظیم و تحریم کی اور ان کی امداد و احانت کی اور تابع ہوئے اس نور کے جوان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ (سورہ اعراف ۷)

اس آیت مبارکہ میں نہ صرف آپ کے بشارات اور تذکرہ کا تورات و انجیل میں مرقوم ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے بلکہ بہت سے صفاتِ حمال اور مقاصد بعثت کے وہاں مذکور ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے جن کے مطابق آپ کی بعثت ہرنی اور ان کتابوں کی حقانیت واضح ہوئی۔

-۲- فرمان باری تعلیٰ ہے :-

وَإِذَا أَحْذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا أَبْيَسْتَكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ
جاءَكُمْ رَسُولٌ مَصْدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِتَوْمَنُنَّ بِهِ وَلِتُنَصِّرَنَّهُ الْآيَةُ -

ایے محبوب یاد کرو اس وقت کو حبِ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب عطا کردوں تمہیں کتاب اور حکمت پھر تمہارے پاس آئے۔ وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہے ان آیات کی حجوم تمہارے ساتھ ہیں تو ضرور بالضرور ایمان لاذگے ساتھ ان کے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔

یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوتی کتاب اور آیات کے لئے تصدیق کی نسبت کی گئی ہے۔ اور تصدیق کی فی الجملہ ایک صورت یہ ہے کہ جو کچھ صفات و کیالات اور اخلاق و اطوار آپ کے انہوں نے بیان فرمائے آپ ان کے مطابق تشریف لئے۔ لہذا اس طرح ان کی تصدیق

Click

ہو گئی۔

۳۔ ارشاد رتب العزت ہے۔

وَذَقَالْ عِيسَىٰ بْنُ مَرِيمٍ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مَصْرِفًا لِمَا بَيْنِ يَدَيَّ مِنَ التُّورَاةِ وَمُبَشِّرٌ أَبْرَسُولٌ يَا تَيْمَرٌ مِنْ بَعْدِي أَسْمَهُ أَحْمَدٌ
(سورۃ صاف ۲۸ پ)

ترجمہ:- اور یاد کرو اے محبوب اس وقت کو جب کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تھاری طرف راتخایکہ بلکہ تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی اور شہادت دیئے والا ہوں اس رسول کی حجومیرے بعد آئیں گے جن کا نام نبی احمد ہے۔

اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ رسالت کے ساتھ ہی تورات کی تصدیق اور پیغمبر آخراً زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کے نام مقدس اور شان حامیت اور مجددیت یادوں کی تصریح بھی کردی گئی ہے کیونکہ احمد اشہر کی طرح ہو تو بہت زیادہ حمد کیا ہوا کا معنی ادا کرے گا اور اعلم کی طرح ہو تو بہت زیادہ حمد کرنے والا کا معنی ادا کرے گا اور دنوں خوبیاں سر در عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ حامد بھی ہیں اور مجدد بھی بلکہ حامیں ہیں سب سے سابق لہذا احمد کہلانے اور مجددین میں سب سے اکل لہذا محمد کہلانے ۳ فرمان خداوند جل جلالی ہے۔

وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔

ترجمہ:- اور اس سے قبل یہودی لوگ آپ کے ساتھ دشمنوں پر فتح طلب کرتے تھے پس جب وہ رسول آگئے جن کو انہوں نے پہچان رکھا تھا اور پوری

پوری معرفت حاصل کر رکھی بھتی تو ان کے ساتھ کفر کیا یہ پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کفر کرنے والوں پر۔

اس آیت کریمہ کے دو معانی بیان کئے گئے ہیں ایک یہ کہ کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کرتے وقت ان پر فتح و نصرت اور غلبہ حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کا وسیدہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے تھے۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي نَبْصَرُ بِنَبْيِ أَخْرَى زَمَانٍ“

اے اللہ پیغمبر اخرازمان کے صدقے میں ہماری امداد فرم اور اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں فتح و نصرت عطا فرماتا آتا تھا۔

دوسرा معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وجب اپنے اعداء اور مخالفین کے ساتھ مقابلہ و مقاتله میں عاجز آتے تو انہیں تبلاتے کہ عمرتیب نبی اخرازمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاظہور ہونے والا ہے اور ہم ان کے حبندڑ کے نیچے جمع ہو کر تمہیں غصت نا بود کریں گے بلکن جب آپ تشریف لائے تو وہ کفار و مشرکین یعنی اوس دخراج تو مشرف بالسلام ہو گئے اور یہ منکر اور کافر اور بالآخر انہیں کے ہاتھوں ذلت اور رسوانی کے ساتھ دوچار ہوتے کچھ قتل ہونے اور کچھ جلاوطن اور اس کفر و حجود کا موجب صرف یہ حصہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاظہور بنی اسماعیل میں کیوں ہوا نہ کہ کوئی علط فہمی یا معرفت میں کمی۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

الذين ايتنا هم الكتاب يعرقونه كما يعرفون ابناء هم و ان
فريقاً منهم ولهم يكتون الحق وهو يعلمون۔

ترجمہ:- جن لوگوں کو ہم نے کتاب (التورات) عطا کی ہے وہ اس Click

پغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو اور بے شک ان میں ایک جماعت البتہ حق کو چھپا تی ہے۔ حالانکہ انہیں اچھی طرح علم ہے (کہ حقیقت حال کیا ہے اور کتنا حق کی سزا کیا ہے۔ مگر حسد نے ان کے لئے اعتراف حق کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی اور اتباع رسالت کے ذریعے ابدی راحتی کے حاصل کرنے کی بجائے جہنم کی دلکشی آگ کا انگارہ بننا ان کے لئے سہل کر دکھلایا۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:-

وَدَكْثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيَرُدُونَ كَمُوْ منْ بَعْدِ إِيمَانِكُوْ كَفَارًا
حَسْداً مِّنْ عَنْدِ النَّفَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفُحُوا هُنَّ
يَا تَعَالَى أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

ترجمہ:- بہت سے اہل کتاب لویر دون کموم من بعد ایمان کو کفاراً ایمانی سے بہرہ ورہ نے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ سبب اس حسد کے جوان کے اندر سے پیدا ہونے والے باوجویکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے تو ان سے عفو اور درگذر کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے چنانچہ بار بار عفو و درگذر کرنے اور ہدایت پر ہدایت دینے کے باوجود حب ان کی آتش حسد سرد نہ ہوئی اور اہل اسلام کے خلاف سازشوں اور ریشه دوائیوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم موعوداً پہنچا اور بوقریظہ قتل ہوئے اور بنو نظیر جلاوطن اور مال و دولت اور سیادت و قیادت جس کے حرص و لامبج میں کتنا حق کا ارتکاب کیا وہ نہ ان کو دینوی عذاب اور ذلت درسوائی سے بچا سکا اور ن آخزوی عذاب سے بچا سکے گا۔ بحافل تعالیٰ

۷۔ وَإِذْ أَخْذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لِتَبَيَّنَنَّهُ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكُونُنَّهُ فَتَبْذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاسْتَرْوَابَهُ ثُمَّ نَاقِلِيَاً فَبِئْسُ

Click

ما يشترونْ لَا تحسينَ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ بِعَاوِنَةٍ وَمَجِونَ اَنْ يَحْمِدُوا
بِمَا لَمْ يَفْعُلُو فَلَا تَحْسِنُهُمْ بِفَيَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

ترجمہ :- اے محبوب یا دکر و راس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ان
لوگوں سے جو کتاب دیئے گئے تھے کہ تم ضرور بالضور اسے لوگوں کے لئے بیان کرنا
اور اس کو بالکل نہ چھپانا لیکن انہوں نے اس کے پس پشت چینک دیا اور اس کے
عوض قلیل و حیرمال حاصل کیا۔ پس یہ وہ جو خریدتے ہیں زگان کروان لوگوں کو جو
خوش ہوتے ہیں اس پر جس کا ارتکاب کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ تعریف کئے جائیں
ساتھ اس کے جوانہوں نے ہمیں کیا تو ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والے نہ
سمجھیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے نبی اُمی صلی اللہ علیہ و آله وسلم کے بشارات
اور ان کے اوصاف و کمالات کو لوگوں کے سامنے بیان کے عہد کا اور اس کو پورانہ
کرنے کا ذکر فرمایا اور ان کے حص و لارج اور طبعی خست اور کینگی کا اظہار فرمایا کہ دنیوی
حیرمال کے عوض اللہ تعالیٰ نے کونا راض کیا اور اپنی عاقبت کو خراب کیا اور عہد و پیمان
کے باوجود کتمان حق جیسے رذیل فعل سے گریزنا کیا۔

الغرض اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جن میں اس امر کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ نبی
عربی صلی اللہ علیہ و آله وسلم کا ذکر کتب سابقہ میں ہے اور انبیاء علیہم السلام اپنی
امتنوں کو آپ کی آمد کی بشارات دیں اور جنہوں نے انکار کیا یا بغض و حسد کی وجہے
اور یاد ہنیوی حیرتائی فانی کے لارج میں دردناک آپ کو وہ اس طرح بغیر کسی استثناء و
التباہ کے جدنتے پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو۔

اگر ان دعاویٰ کے رد و انکار کی یہود و نصاریٰ کے لئے کوئی گناہ شہر ہوتی تو
بغیر ایک لمحہ کے توقف کے سهم، ہر دو نصانعوں Click ص. اشاعر و آلبوم کے اس

دوڑکر آتے اور آپ کے غلاموں کو بھی جمع کرتے اور یہ پیغام دے دیتے کہ یہ ہے توارثِ
انجیل و کھلاوہ کہاں تھا را ذکر ہے اور تمہارے آنے کی بشارت یا تھا ری کوئی علامت
اور نشانی موجود ہے۔ اگر دکھلا دو تو ہم ابھی مسلم ہوتے ہیں اور اگر کوئی بشارت اور
علامت آپ کی ان کتابوں سے نہ مل سکے اور یقیناً نہیں مل سکے گی تو تم دعویٰ نہ
سے باز آؤ اور تمہارے حلقة علمی میں آنے والوں کو بھی توری کرنی اور تمہارا دامن
چھوڑنا لازم ہوا س نے دین و مذہب سے بے زاری کا اعلان لازم جب کرو وہ خود
فین کتابت کے ماہر تھے اور تعلیم یافتہ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُتھی اور
آپ کی امت بھی اُتھی تھی۔

تو کتنا جلد فیصلہ ہو جاتا اور اہل اسلام کو لا جواب کرنے کا کتنا سنبھالی موقع ہاتھ آ جاتا
قریش مکہ مظلوم و ستم اور جبر و استبداد کے باوجود اسلام کی روزافزوں ترقی کے آگے جو بند
نہیں باندھ سکے تھے اور بالآخر جگ وجدال اور حرب و قتال اور کشت و خون پر
اٹا آئے تھے۔ یہود و نصاریٰ صرف اس ایک اعلان کے خلاف واقع ہونے اور کذب
افتراء ہونے کو ثابت کر کے خود بھی محفوظ و مامون ہو سکتے تھے اور اپنے مذہب کا
بھی تحفظ کر سکتے تھے اور اسلام کی نشوونما اور ترقی و اشاعت کو بھی بالکل ختم کر سکتے تھے
لیکن وہ قطعاً اس قسم کی جرأت نہ کر سکے اور پڑھے تکھے علماء و فضلاء اور توارث و
انجیل کے مدرس و مفسر اس بی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو حطبلانہ سکے اور
جو سعادت مند تھے وہ اس چہرہ اقدس کو دیکھتے ہی پکارا مٹھے ماہزا بوجہ کذاب یہ
چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا اور آپ کے بحق بی بی ہونے کی علائیہ شہادت دی جیسے حضرت
عبد اللہ بن سلام حضرت کعب احجار اور دیگر حضرات اور اسی قسم کے خوش بخت لوگوں
کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ شامل کر کے بی اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی صداقت و حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا :-

Click

قل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب
میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اور کتاب تورات کا علم رکھنے والوں کی شہادت
کافی ہے۔

اور جوازی بدبخت اور محروم تھے وہ صرف کفار قریش کے ساتھ سازشوں اور حیلہ سازیوں کے
ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہچانے کی سعی لا حاصل کرتے رہے جس کے نتیجہ میں خود
نیست و تابود ہو گئے اور یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ بنی امی فداہ ابی وائی صلی اللہ و علیہ وآلہ
وسلم کا یہ دعویٰ برحق ہے اور آپ واقعی تورات و انجلی کی پیشگوئیوں کے مطابق صفحہ دہر پر قدم رنجہ
فرما ہوئے اور تمام انبیاء و رسول علیہم السلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق اس طرح بھی فرمائی کہ
وہ اپنے دور کے پچھے رسول اور نبی تھے اور اس طرح بھی کی جو کچھ آپ کے متعلق انہوں نے بتایا
تھا اس کے عین مطابق آپ کاظہور ہوا۔ والحمد لله علیٰ ذالک

آئیے اب تورات و انجلی اور صحف انبیاء علیہم السلام کی ورق گردانی کرتے ہیں اور اس
محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت شان پر مشتمل وہ آیات تلاش کرتے ہیں جن کا کلام مجید نے
اجمالاً ذکر فرمایا ہے تاکہ ہمارا عقیدہ مزید پختہ ہو جائے۔ علم الیقین حق الیقین کے ساتھ بدل
جائے اور مزید اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور ہم سادہ لوح اہل کتاب کو گمراہی و ضلالت سے
بچانے اور انہی کی کتابوں سے راہ حق ان پر واضح کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی محروم
ہدایت ہماری اس ناتمام کوشش اور جدوجہد سے ہدایت کے باام رفع تک پہنچ جائے اور ابدی
سعادتوں سے بہرہ ور ہو جائے۔

﴿وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ عَلَيْهِ تَوْكِيدٌ وَالِّيَهُ اِنْبِيبٌ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
خَيْرِ خَلْقِهِ وَمَظَهِرٌ لَطْفَهُ وَآلِهِ وَصَحْبَهُ اِجْمَعِينَ﴾

Click

اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٌ

اور انجیل مقدس

۱۔ یسوع نے جواب دیا جبکہ اللہ نے مٹی کا ایک ملکڑا پیدا کیا اور اس کو پچھیں ہزار سال بغیر اس کے ڈال رکھا کہ کچھ اور کرے، شیطان نے جو کہ کاہن اور فرشتوں کے سردار کی مانند تھا بعده اس بڑے ادراک کے جو اس کو حاصل تھا۔ معلوم کر لیا کہ بے شک اللہ اسی مٹی کے ملکڑے سے ایک لاکھ اور چوبیس ہزار نبیوں کو بنائے گا جن کونبوت کی عزت دی گئی ہوگی اور رسول اللہ کو بھی جس کی روح اللہ نے ہر ایک دیگر چیز سے سانحہ ہزار سال قبل پیدا کی ہے اور اسی لیے شیطان غضبناک ہوا۔

۳۵ فصل ص ۵۲، ۵۳

۲۔ پس جبکہ آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح پہنچتی دیکھی جس کی عبارت تھی لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا میں تیراشکر کرتا ہوں۔ اے میرے پروردگار اللہ کیونکہ تو نے مہربانی کی پس مجھ کو پیدا کیا لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کی تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تب اللہ نے جواب دیا مر جبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا اور یہ شخص کو تو نے دیکھا ہے تیراہی بیٹا ہے۔ جو کہ اس وقت کے بہت سال بعد دنیا میں آئے گا اور وہ میرا ایسا رسول ہو گا کہ اس کے لئے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ رسول کہ جب آئے گا دنیا کو ایک روشنی بخشدے گا یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح ایک آسمانی روشنی میں سانحہ ہزار سال قبل اس کے رکھی گئی تھی کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔

۳۹ فصل ص ۶۰

Click

۳۔ اس وقت یسوع نے کہا میں ایک آواز شور مچانے والی ہوں تمام یہودیہ میں جو کہ چیخنی ہے کہ پروردگار کے رسول کا راستہ درست کرو۔ جیسے کہ اشیاء میں لکھا ہوا ہے۔۔۔ انہوں نے کہا جبکہ تو مسیح ہے نہ ایلیاء نہ کوئی اور نبی تو پھر کیوں ایک نئی تعلیم کی بشارت دیتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح احمد رسول اللہ سے بہت بڑھ کر شاندار بتاتا ہے، یسوع نے جواب دیا تحقیق خدا کی نیشنیاں جو اللہ میرے ہاتھ سے نمایاں کرتا ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ میں وہی کہتا ہوں جو نہ اک ارادہ ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو اس کا مانند شمار نہیں کرتا جس کی نسبت تم کہہ رہے ہو کیونکہ میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جو تے کے بندیا نعلین کے تسمے کھلوں جس کو تم مسیح کہتے ہو وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا اور وہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔

فصل ۲۳ ص ۲۶ - آیت ۲۷۸

۴۔ پس آدم نے بہنث یہ کہا اے پروردگار یہ تحریر مجھے میرے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن پر عطا فرم۔ تب اللہ نے پہلے انسان کو یہ تحریر دونوں انگوٹھوں پر عطا کی، دانے ہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر یہ عبارت لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور با میں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر یہ عبارت محمد ز رسول اللَّهِ تب پہلے انسان نے ان کلمات کو پدری محبت کے ساتھ بوسہ دیا اور اپنی دونوں آنکھوں سے ما اور کہا مبارک ہے وہ دن جس میں کہ تو دنیا کی طرف آئے گا۔

فصل ۲۹ ص ۲۰ - آیت ۱۲۸

تبصرہ:-

انجیل بر بناس کی چار عبارتیں آپ کے سامنے ہیں جن سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

Click

- ۱۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور منیر ہونا۔
- ۲۔ عیسیٰ علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے پہلے پیدا کیا جانا۔
- ۳۔ آپ کے نام اقدس کا اللہ تعالیٰ کے نامی نامی اور اسم گرامی کے ساتھ آسمان اور عالم بالا میں نقش ہونا۔
- ۴۔ انگوٹھے چومنے کا سنت آدم علیہ السلام ہونا وغیرہ
- امر اول کا ثبوت اس جملہ سے ہے کہ وہ رسول جبکہ دنیا میں آئے گا تو دنیا کو ایک روشنی بخشے گا اور ظاہر ہے جو خود نور نہ ہو وہ دوسروں کو نورانی کیسے بناسکتا ہے اور یہی مضمون قرآن کریم کی ازان دوآیات میں مذکور ہے۔ ﴿قُدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌۚ وَ كِتَابٌۚ، دَاعِيَا إِلَىِ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سَرَاجًا مُّنِيرًا﴾، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے لہذا انجیل، قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور اور منیر ہونے کی شان واضح ہو گئی لہذا اسکی مسلمان کے لئے اس میں تردی کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

امر ثانی:

انجیل سے نقل کردہ تینوں عبارات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عصری اور جسمانی حالت میں مبعوث ہونے سے قبل روحانی اور نورانی حالت میں موجود ہونا بصراحت مذکور ہے۔ تیری عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا جانا اور بعد میں مبعوث ہونا مذکور ہے اور پہلی دونوں عبارات میں دنیا کی ہر چیز سے سائبھ ہزار سال پہلے پیدا کیا جانا واضح ہے اور یہ حقیقت مسلم ہے کہ ارواح اجسام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے لہذا اگر روح محمدی علی صاحب اصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام اور دنیا کی ہر چیز سے پہلے موجود ہو تو اس میں تعجب کی کوئی جگہ ہے

Click

اور یہ مضمون بھی قرآن و حدیث کے ناقابل تشكیک دلائل سے مبرہن جیسے کہ ہم نے بھی مستقل رسالہ "توبی الابصار" میں مفصل طور پر بیان کیا ہے۔

سوال:-

یہاں سے تو صرف روح اقدس سے پہلے پیدا کئے جانے کا ثبوت ملا اور ارواح سب کے نورانی ہیں۔ پھر آپ کی خصوصیت نورانیت کے لحاظ سے کیا ہوئی؟

جواب:-

آپ کے روح اقدس کا سب اشیاء سے قبل پیدا کیا جانا بھی آپ کی خصوصیت ہے اور آپ کا نور ہونا بھی آپ کی خصوصیت ہے اول الذکر کا ثبوت تو عبارت سے واضح ہے اور ثانی کے اختصاص کی صورت یہ ہے کہ ارواح حقائق مختلف ہیں اور ان میں باہم تفاوت موجود ہے جب ملائکہ نوری ہونے کے باوجود مختلف ہیں جبریل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ مقریبین کی نوری وجود عام ملائکہ سے علیحدہ ہے اسی طرح آخر پرست صلی اللہ علیہ وسلم کا روح اقدس اپنی نورانیت میں دوسروں سے ممتاز ہے۔ مثلاً سورج بھی نور، چاند بھی نور، ستارے بھی نور لیکن سورج کے مقابل ان کی نورانیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح اس سراج منیر کی نورانیت اور خیاپاشیوں کے مقابل دوسرے انوار وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جو چاند اور ستارے سورج کے مقابلہ میں رکھتے ہیں۔

علاوہ ازیں انجلیل کی عبارت میں صرف روح کا تخلیق میں مقدم ہونا ہی مذکور نہیں ہے بلکہ اس کا آسمانی روشنی میں موجود ہونا بھی مذکور ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ روح اقدس بھی نور اور اس کا وہ لباس بھی نور جس میں اس کو رکھا گیا دیکھئے ملائکہ کی حقیقت اور روح نور ہے مگر جسم نہ کہتا۔ [Click here to download](#) ورنہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کے نور ہونے میں شک و تردی کیوں جن کی روح بھی نور اور وہ لباس بھی نور جس میں اس کو رکھا گیا۔

امر ثالث:-

آدم علیہ السلام کا آسمان میں نورانی تحریر کے ساتھ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا دیکھنا اور جنت کے دروازے پر اسی طرح لکھا ہوا دیکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی واضح دلیل ہے کہ جہاں جہاں نقش الوہیت موجود ہے وہاں وہاں نقش رسالت بھی موجود ہے جس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نہ الوہیت باری کے لئے کسی مکان کی تخصیص ہے اور نہ ہی رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکان کی پابند ہے بلکہ آسمان وزمین کی ہر شے کو الوہیت خداوند تعالیٰ کی طرح رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محیط ہے اور روز اول سے آپ کی رسالت کا اس طرح اعلان آپ کے دوام رسالت کی بھی دلیل ہے اور تیسری عبارت کا آخری جملہ اس دعویٰ کے لئے روشن دلیل ہے۔ یعنی اور وہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور یہ جملہ بھی کہ میں تو ایک شور مچانے والی آواز ہوں۔ تمام یہودیہ میں جو کہ چیختی ہے کہ پروردگار کے رسول کا راستہ درست کر و گویا پہلے تمام نبی ان کے خلفاء اور ناسیمین کی حیثیت سے کام کرتے رہے اصل وہ دور بھی آپ کی ہی رسالت کا تھا جس طرح یہ زمانہ والحمد لله علیٰ دالک

علاوہ اذیں رسول کرام اور انبیاء عظام علیہم السلام میں سے صرف اس ہستی مقدس کی رسالت کا منقوش و مکتوب ہونا اس امر کی روشن دلیل ہے کہ اصلی رسالت آپ کی ہے اور باقی

سب طفیلی ہیں اور آپ کی فرع

کلیے کی چراغ فلک طور اوت

Click

نوت:-

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عموم از روئے زماں و مکاں اور کائنات علوی و سفلی میں آپ کے نام اقدس کا مذکور و مکتوب ہونا ہماری کتاب کوثر الخیرات میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے وہاں ملاحظہ فرمادیں۔

انگوٹھے چومنے کا ثبوت

آدم علیہ السلام نے بہنت اللہ تعالیٰ سے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی تحریر کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں منتقل کرایا اور پھر دونوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگایا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ انگوٹھے چومنا سنت آدم علیہ السلام ہے اور اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانیت کی اور پہلے انسان نے ہی اس کا خیر کا آغاز فرمایا۔

اور یہی عمل ہماری شریعت میں حدیث شریف اور علمائے اعلام کے ارشادات سے ثابت ہے حضرت علامہ امام سید محمد امین آفندی المعروف با بن عابد بن شامي علیہ الرحمۃ رد المحتار میں فرماتے ہیں ﴿يستحب أن يقال عند سماع الأولى صلی الله علیک یا رسول الله و عند الثانية منها قرۃ عینی بک یا رسول الله﴾

﴿وَفِي الْفَتاوِيَ صَوْفِيَهُ وَكِتَابِ الْفَرْدَوسِ مِنْ قَبْلِ ظَفَرِيِّ ابْهَامِيهِ عَنْدَ سَمَاعِ اشْهَدَانِ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْآذَانِ اَنَا قَائِدُهُ وَمَدْخُلُهُ فِي صَفَوْفِ الْجَنَّةِ﴾

شامي رد المحتار جلد اول صفحہ ۲۹۲

ترجمہ:-

Click <https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

رسول اللہ اور جب دوسری مرتبہ نے تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے پھر یہ کہہ اے اللہ مجھے فائدہ پہنچا میرے کانوں کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے یہ اس وقت کہے جب دونوں انگوٹھوں کے تاخن دونوں آنکھوں پر رکھ چکا ہو اور مند الفردوس میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ اسلوۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اشہدان محمد رسول اللہ سننے کے وقت اپنے دونوں انگوٹھوں کے تاخنوں کو بوسہ دے تو میں جنت کی صفوں میں اس کو داخل کروں گا اور اس کو اپنے ہاتھ سے بکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا اسی طرح کامضیون طحطاوی علی المرافق الفلاح کے بب الآذان میں موجود ہے اور اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے بھی موضوعات کبری میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انگوٹھے چومنا ثابت ہے تو یہ عمل۔ لیے کافی اور وافی دلیل ہے کیونکہ آپ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہیں اور سرکار عدیہ الصلواۃ السلام کا ارشاد پاک ہے ﴿عَلَيْكُمْ بِسْنَتِي وَسَنَةِ خَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُوَابِيْنَ﴾ تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر۔ اسی طرح ز عبارت امام عبد الرحمن شمس الدین سخاوی علیہ الرحمۃ نے المقادد الحسنة میں تحریر فرمائی ہے اور حصر امام اسماعیل حقی بر وسوی علیہ الرحمۃ نے تفسیر روح البیان میں اور اسی طرح تفسیر جلالیں کے حاشیہ میں زیر آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصْلُونَ عَلَى النَّبِيِّ إِلَخ﴾

مطبوعہ اصح المطابع کراچی

اور دیوبندیوں کے مائیہ ناز عالم عبد الشکور لکھنؤی نے بھی اپنی کتاب علم الفقه میں شامی علیہ الرحمۃ کے حوالے سے یہی عبارت لکھی ہے

الغرض نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس پر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں سے ملنا بدعت نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام میں سے خلیفہ اول حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس پر

Click

امت مرحومہ میں سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور امام الانبیا و المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہے اور آپ کی طرف سے اس پر عظیم شہادت بھی مردوی منقول ہے۔

سوال:-

آدم علیہ السلام نے تو ان مقدس نقوش اور کلمات طیبہ کو انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھا تب بوسہ دیا اور ہمیں تو ایسا کوئی نقش نظر نہیں آتا ہے لہذا ہمارے انگوٹھے چونے کا کیا جواز ہے؟

جواب:-

انبیاء علیہم السلام اور مقدس ہستیوں کے افعال اور ان کی سنت کو دیکھا جاتا ہے علی، و اس باب کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھئے ابراہیم علیہ السلام نے تم جگہ شیطان کو کنکریاں ماریں کیونکہ وہ ان کو ورغلانے کا فاسد ارادہ رکھتا تھا اور ان کو اسماعیل علیہ السلام کے راہ خدا میں ذبح کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا تھا لہذا آپ نے اس کو نشانہ بنایا کنکریاں ماریں لیکن ہمیں وہاں نہ شیطان نظر آتا ہے نہ ہمیں کسی خاص فعل سے باز رکھنے کی اس جگہ میں سعی کر رہا ہوتا ہے لیکن کنکریاں بہر حال مارتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم عمرہ کے لئے تشریف لے گئے کفار و مشرکین نے طعنہ دیا کہ ان کو یثرب کے تپ نے کمزور اور لا غر کر رکھا ہے انہوں نے کیا طواف کرتا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کعبہ کے گرو پہلے تم چکر دوز کر اور پھر چار چکر پہلوانوں کی طرح نہیں کر لگاؤ تاکہ مشرکین کو تمہاری قوت و طاقت کا اندازہ ہو جائے اور تم پر کیے گئے اعتراض کا خود خود جواب آجائے۔ لیکن اب تک وہ سنت باقی ہے حالانکہ ان کافروں کا مدت مدید اور عرصہ بعید سے نام و نشان مٹ چکا۔ علی ہذا القیاس حضرت ہاجرہ کا صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے پانی Click

تلاش کرنے کی خاطر تھا۔ مگر اب نہ کسی ہا بچہ پیاسانہ دوڑ بھاگ کر پانی تلاش کرنے کی ضرورت مگر حکم اسی طرح باقی ہے تو معلوم ہوا مقدس ان بارگاہ خداوند تعالیٰ کے افعال و سُنن کو دیکھ جاتا ہے نہ کہ ان کے علل و اسباب کو علی انہوں جبکہ ہماری شریعت میں بھی یہ حکم موجود ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

امر رابع :- آدم علیہ السلام :- فَمَا يَا جَبَكَهُ وَهُمْ بِهِ مُجْتَبٌ پُدْرِيٰ کے ساتھ انگوٹھوں کے ناخن چوم رہے تھے اور آنکھوں سے مل رہے تھے۔ "مبارک ہے وہ دن جس میں تو دنیا کی طرف آئے گا"۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن آپ کی نگاہ میں بہت بارکت اور یادگار دن تھا، اور یہ کہ آپ کے قدوم میمنت لزوم نے دنوں اور مہہ و سال کو بارکت کیا نہ کہ آپ نے ان سے بہت حاصل کی اور یہی عقیدہ اہل اسلام کا اب بھی ہے اور کلام مجید نے واضح کر دیا کہ ہر وہ شے جس کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی عزت پا گئی، زندگانی پاک کی عظمت ارشاد خداوندی لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَّتِهِمْ يَعْمَهُونَ، سے ظاہر ہے یعنی مجھے آپ کی زندگی کی قسم آپ کے مخالفین اپنی مدد ہوئی اور بے ہوئی میں بھٹکے پھرتے ہیں۔ زمانہ اقدس کی عظمت وَالْعَضْرِيَّانَ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے آپ کی زندگی کی قسم بے شک ہر انسان خسارے میں ہے اور مکان کی عظمت و رفتہ اس ارشاد خداوند تعالیٰ سے ظاہر ہے۔ لَا أُقِيمُ بِهَذَا الْبَلْدِ وَأَنَّتَ حِلَّ "بِهَذَا الْبَلْدِ، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا جبکہ آپ اس میں نزول فرمائیں اور قدم رنجا فرم۔ الغرض قرآن مجید نے انجیل کے اس فرمان کی تصدیق کریں۔ راجیل نے قرآن مجید میں مذکور مضامین کی تائید کر دی جس سے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا مصدق "لَمَا مَعَكُمْ ہونا واضح ہے۔

والحمد لله على ذالك.

وَرْفَعْنَاكَ ذِكْرَ

اور انجیل مقدس

فصل ۳۹ ص ۶۰

۲۔ پھر اللہ پوشیدہ ہو گیا اور فرشتے میخائیل نے ان دونوں آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا ہے جبکہ آدم نے مذکر نگاہ کی اس نے فردوس کے دروازہ کی پیشانی پر کھاد کیا ہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ تَبَّ وَهَا وَقْتٌ رُّوِيَّا اور کہا اے بیٹے کاش اللہ یہ ارادہ کرے کہ تو جلد آئے اور ہم کو اس کم بختی اور مصیبت سے چھڑائے۔

فصل ۲۱ ص ۶۳ - آیت ۲۹

تہذیب

ان دونوں عبارتوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتہ ذکر اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر
خصوصی کرم ظاہر و واضح ہے اور ساتھ ہی ساتھ آدم علیہ السلام کا یہ عقیدہ بھی عیاں ہے کہ آپ
اپنے لخت جگر کو اپنا وسیلہ اور سہارا سمجھتے تھے اس لئے یہ آرزو کی کہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو مبعوث
فرمائے اور تم آکر ہمیں اس کم بختنی اور مصیبت سے چھڑاؤ اور یہی حقیقت قرآن مجید نے بھی بیان
فرمائی ہے قالَ اللَّهُ تَعَالَى فَتَلَقَّى آدُمْ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ كَهضُرت آدم علیہ
السلام نے اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھ لئے اور ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول
فرمائی جیسے کہ تفسیر درمنشور میں امام سیونی نے اور مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی

Click

نے اور دیگر اکابر نے ذکر کیا کہ وہ کلمات یہ تھے اللہم اغفر لی بحق محمد وآلہ او دوسری قرأت کے مطابق کلمات فاعل ہے اور آدم مفعول اور معنی یہ ہے جیسے کہ علامہ آلوی ن روح المعانی میں ذکر فرمایا کہ کلمات یعنی جامع کمالات انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی امداد و اعانت رب تعالیٰ کے اذن سے فرمائی اور حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ ہیں تو آپ کلمات ہیں کیونکہ جامع جمیع کمالات انبیاء ہیں۔

گویا انجل نے آرزوے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو کلام مجید نے اس آرزو کی تجھیل کر اور اس تمنا کے برآنے کا لہذا دونوں میں موافقت و مطابقت ثابت ہو گئی اور ایک دوسرے کی تائید و تصدیق۔ والحمد لله علی ذالک۔

شانِ لواک اور انجیل مقدس

۱۔ اور وہ محمد رسول اللہ میرا ایسا رسول ہو گا کہ اس کے لئے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ رسول کہ جب آئے گا تو سب دنیا کو روشنی بخشدے گا۔

فصل ۳۱ ص ۶۰

۲۔ اور یوں جب اس اللہ نے ؎مل کا ارادہ کیا سب چیز سے پہلے اپنے رسول کی روح پیدا کی وہ رسول جس کے سبب سے تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا قصد کیا۔

فصل ۳۳ ص ۶۸ - آیت ۹، ۱۰

۳۔ اور رسول اللہ ان تمام نبیوں کو جمع کرنے جائے گا جن سے کہ وہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ اس کے ساتھ چلیں تاکہ اللہ کی جناب نیں مومنوں کے لئے منت کریں پس ہر ایک خوف کی وجہ سے عذر کرے گا اور قسم ہے اللہ کی زندگانی کی کہبے شک میں بھی وہاں نہ جاؤں گا کیونکہ میں

Click

چانتا ہوں جو کچھ کہ جانتا ہوں اور جس وقت کہ اللہ اس بات کو دیکھے گا وہ اپنے رسول کو یاد دلانے کا کہ کیونکہ اس نے سب چیزوں کو اس کی محبت کے لیے پیدا کیا ہے تب اس رسول کا خوف جاتا رہے گا اور وہ محبت اور ادب کے ساتھ عرش کی طرف بڑھے گا اور فرشتے گاتے ہوں گے برکت والا ہے تیرا قدوس نام اللہ ہمارے معبود اور جبکہ وہ عرش کے نزدیک آپنے گا اللہ اپنے رسول کے لئے یوں پرده کھول دے گا کہ ہر ایک دوست اپنے دوست کے لئے ملاقات پر لمبی مدت گزرنے کے بعد دروازہ کھول دیتا ہے۔

جواب دے گا وہ یہ ہیں آدم، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، داؤ دا اور یسوع مریم کا بینا علیہم السلام پھر جب کوئہ حاضر ہو جائیں گے اللہ ان تک کہے [Click](#) کر کے کوئا کوئا کہتے ہو جس مرد نے سوال

۲۔ عورت نے کہا شاید تو ہی، یہ غیرہ آخر الزمان ہے اے سید، یسوع نے جواب دیا حق یہ ہے کہ میں اسرائیل کے گھر انے می طرف خلاص کا نبی بنایا کر بھیجا گیا ہوں لیکن میرے بعد جلد ہی مسیح اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمام دنیا کے لئے آئے گا وہ مسیح اکہ اللہ نے اسی کی وجہ سے دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس وقت تمام دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا جائے گا اور رحمت حاصل کی جائے گی۔

فصل ۸۲ ص ۱۲۲ - آیت ۱۶، ۱۷

۵۔ کاہن نے جواب میں کہا: [کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا اللہ عنقریب](#) Click <https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فصل ۹۶ ص ۱۳۲۳ - آیت

۶- تب اس وقت کا، ہن نے کہا۔ سیحا کا نام کیا رکھا جائے گا؟ اور وہ کیا نشانی ہے جو اس کے آنے کا اعلان کرے گی یہو ع نے جواب دیا۔ سیحا کا نام عجیب ہے اس لئے کہ اللہ نے جس وقت اس کی ذات کو پیدا کیا اور اسے آسمانی روشنی میں رکھا خود ہی اس کا نام بھی رکھا۔ اللہ نے کہا اے محمد تو صبر کر اس لئے میں تیرے لئے ہی جنت اور دنیا اور مخلوقات کی بڑی بھاری بھیڑ جس کو کہہ تھے بخششوں گا پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یہاں تک کہ جو تھے برکت دے گا وہ مبارک ہو گا اور جو تھے پر لعنت کرے گا وہ ملعون ہو گا اور جس وقت کا نام سمجھو، نامیں سمجھو، گا تھہ نہ ۱۔ کے لئے انا

رسول بناؤں گا اور تیرا کلام سچا ہو گا یہاں تک کہ آسمان اور زمین دونوں کمزور ہو جائیں گے مگر تیرا ایمان کبھی کمزور نہ ہو گا تحقیق اس کا مبارک نام محمد ہے۔ اس وقت عام لوگوں نے یہ کہتے ہوئے شور مچایا اے اللہ تو ہمارے لئے اپنے رسول کو بھیج اے محمد تو جلد دنیا کو نجات دینے کے لئے آ۔

فصل ۷۹ ص ۱۳۶ - آیت ۱۳۷ - ۱۹

۔ پس تو ہی اے پروردگارِ نَمَ و شیطان اور بدن اور دنیا سے نجات دلا جس طرح کہ تو نے اپنے مصطفیٰ کو نجات دی اپنی ذات پاک کی خاطر سے اور اپنے رسول کا اکرام کرنے کے لئے وہ رسول کہ اسی کے لئے تو نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اپنے کل قدوسیوں اور نبیوں کے اکرام کے لئے۔

فصل ۱۲۲ ص ۱۸۱ - آیت ۲۵ - ۲۶

۔ اے وہ پروردگار معبود جو کہ اپنی عنایت سے تمام ضروریات اپنی قوم اسرائیل کے پورے کرتا ہے تو ان سب زمین کے قبائل کو یاد کر جن سے تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو اپنے اس رسول کے ذریعے برکت دے گا جس کے سبب سے تو نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ دنیا پر رحم کر اور اپنے رسول کے بھینے میں جلدی کرتا کہ وہ رسول تیرے دشمن شیطان سے اس کی مملکت کو چھین لے۔

انجیل بر بناس ص ۲۹۳ فصل ۲۱۲ - آیت ۱۷، ۱۸

تبصرہ

ان آئٹھے عبارات سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول م معظم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تمام دنیا اور ہر مخلوق کو پسیدا کیا ہے اور مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کے آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور تمام دنیا اپنیا رسول اور ملائکہ وغیرہ کو آپ کے طفیل وجود و ہستی اور انعامات و کرامات سے نواز لے ہے اور یہی مضمون قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، "إِنَّنَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ نَارٍ وَّ أَهْلَكَمَا لَوْلَّا وَّ أَعْرِجْنَا فَهُنَّ مُنْزَلُوكَ وَ كَوَافِتَكَ عِنْدِنَا" "رشفا شتریف، خصائص کبریٰ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو پسیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کو آپ کی عزت و کرامت اور منزلت و مرتبت دکھلاؤں اور آدم علیہ السلام کو فرمایا "لَوْلَا مُحَمَّداً مَا خَلَقْتَكَ"، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں تمہیں پسیدا نہ کرتا اور حضرت عیسیٰ وحی اللہ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، "لَوْلَا مُحَمَّداً مَا خَلَقْتَ آدَمَ وَ لَا إِنْجَنَةَ وَ لَا إِنْتَارَ"، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پسیدا کرتا اور نہ ہی جنت و دوسری خ کو، (خصائص کبریٰ جلد اول ص ۲۰۶)

اور اسی طرح کلام مجید کے اس ارشاد سے بھی آپ کا مقصد تخلیق کائنات ہونا واضح ہے، "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً"، کیونکہ خلافت آدم کا ذکر کرتے وقت بوبیت کی نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس سلسلہ خلافت سے مقصد صرف آپ کی نسبیت ہے اور آپ کی شان محبوبیت کا اظہار، اور اسی

Click


طرح اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی بھی اس دعویٰ کی میں دلیل ہے "وَإِذَا أَخْذَ اللَّهُ
مِيَثَاقَ النَّبِيِّنَ إِنَّمَا أَتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٌ شَدَّجَاءَكُمْ رَسُولٌ"
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنْصَرُنَّ هُنَّ، یکون کہ آپ کی بخشش پر ہر بھی
ورسول کا اپنے دعویٰ نبوت و رسالت سے مستبردار ہونا اور آپ پر ایمان لانے
کا اور دین اسلام کی تائید و نصرت کا پابند ہونا، آپ کے سلسلہ انبیاء و رسول
میں سے متفصداً و لین ہوتے کی روشن ولیل ہے اور یہ طبقہ تمام مخلوق کے افضل
و اعلیٰ ہے اور سب کا تبوع و سطاع اور آقا و سردار ہے تو مچھر آپ کا ساری
کائنات میں سے مقصودِ خداوندا و مرطلوب و محبوب ہونا بدیہی طور پر ثابت
ہو گیا اور اس طرح انجیل و قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باہم تطابق
 واضح ہو گیا۔ **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَالِكَ**

۳ — تیسری عبارت سے سرورِ علم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ شفاعت
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ اقدس کا قرب اور سب انبیاء و رسول اور امم و خلائق
کا آپ کی طرف محتاج ہونا اور آپ کا سب کو اپنی شانِ حسیی سے اور کرم
عینیم سے نوازنہ صاف عیاں ہے اور قرآن کریم کے اس اعلان کی واضح تائید
و تصدیق ہے "عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَنَا رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا"، غقریب
تحییں تمھارا بمقامِ محمود پر فائزہ فرمائے گا اور وہ یہی منصبِ شفاعت
عظیمی ہے۔

۴ — پانچویں عبارت میں پیغمبر آنحضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوب
کی طرف سے آتا اور اصنام و اصنام پرستوں کو ہلاک کرنا اور عیسیٰ علیہ السلام
کے صحیح منصب لیعنی عبدِ اللہ و رسولہ کا تعین فرمانا اور افراط و تفریط کو
ختم کرنا ذکر کیا گیا ہے اور یہ علاماتِ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم

Click

میں پائی گئی میں نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رسول میں حبیبوں نے اُنھیں اس خلط فہمی میں
عام لوگوں کو بتلا کر کے تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کو مسخ کر دیا اور ان کی ساری
زندگی صرف تبلیغی دورے کرتے گزری، کبھی جنگ اور حرب و قتال کا انہوں نے
نام ہی نہ لیا جبکہ نبی امیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کر کے مشرکین اور ان کے
عبودات باطلہ کا صفائیا کر دیا۔ لہذا صفات کے اعتبار سے بھی اور تمام اقدس
کی تصریح کے لحاظ سے بھی اس پیشینگوئی کا مصدق صرف اور صرف رسول
عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والحمد لله علی ذا الک



مقدس محمد رسول اللہ کی آمد

اور پرأت مسیح

۱ — اور عنقریب میرا ایک شاگرد مجھے تیس سکوں کے لشکروں کے بال و حوض مجھے نیچے ڈالے گا اور اس بنا پر مجھ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو شخص مجھے پراؤ گا وہ میرے ہی نام سے قتل کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ مجھ کو زمین سے اوپر اٹھا لے گا اور بے وفا کی صورت مبدل دے گا یہاں تک کہ اس کو ہر ایک یہی خیال کرے گا کہ میں ہوں مگر جب مقصد مقدس محمد رسول اللہ آئے گا وہ اس بدنامی کے درجے کو مجھ سے دور کر دے گا اور اللہ یہ اس لیے کرے گا کہ میں نے مسیا کی حقیقت کا اقرار کیا ہے وہ مسیا جو مجھے یہ نیک پر لہ دے گا یعنی کہ میں پہچانتا جاؤں گا کہ زندہ ہوں اور یہ کہ میں ایسی موت مرنے کے درجے سے برمی ہوں۔

۲ — پس جبکہ آدمیوں نے مجھ کو اللہ اور اللہ کا بیٹا کہا تھا مگر یہ کہ میں خود دنیا میں بے گناہ تھا اس لیے اللہ نے ارادہ کیا کہ اس دنیا میں آدمی یہودا کی موت سے مجھ سے ٹھٹھا کریں یہ خیال کر کے کہ وہ میں ہی ہوں جو کہ صلیب پر مرا ہوں تاکہ قیامت کے دن شیطان مجھ سے مٹھانے کریں اور یہ بدنامی اس وقت تک باقی رہے گی جب کہ وہ محمد رسول اللہ آئے گا

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اور اس فریب کو ان لوگوں پر کھوں قے گا جو کہ اللہ کی شریعت پر ایمان نامیں
گے۔
فصل ۲۲ ص ۳۰۶

مندل

اور اس مسیح طیہ السلام نے ان لوگوں میں سے بہتھوں کو ملامت کی
جنھوں نے اعتقاد کیا تھا کہ وہ ریسوع (مُرکرہ چہرہ جی) اٹھا ہے یہ کہتے ہوئے آیا
تم مجھ کو اور اللہ دونوں کو جھوٹا سمجھتے ہو اس لیے کہ اللہ نے مجھے ہبہ فرمایا ہے۔
کہ میں دنیا کے خاتمہ کے کچھ پہلے تک زندہ رہوں جیسا کہ میں نے ہی تم سے کہا ہے
میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ میں نہیں مرا ہوں بلکہ یہودا خائن مرا ہے تم ڈرتے
رہو اس لیے کہ شیطان اپنی طاقت بھر تم کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرے گا لیکن تم
تمام اسرائیل اور ساری دنیا میں ان چہروں کے لیے جن کو تم نے دیکھا اور
ستنا ہے میرے گواہ رہو... (تا) ... پھر اس کو چاروں فرشتے ان لوگوں
کی آنکھوں کے سامنے آسمان کی طرف اٹھا لے گئے، ریسوع نے جواب دیا
ہر وہ چیز جو کہ موسیٰ کی کتاب پر منطبق ہوتی ہے وہ حق پس تم اس کو قبول کر
لو اس لیے کہ جب اللہ ایک ہے حق بھی ایک ہو گا پس اس سے یہ تیجہ نکلتا
ہے کہ تعلیم ایک ہی ہے اور یہ کہ تعلیم کے معنی ایک ہی ہیں تو ایمان بھی اس
حالت میں ایک ہی ہے۔ میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ بے شک اگر موسیٰ کی کتاب
سے حق محسونہ کیا گیا ہوتا تو اللہ ہمارے باپ داؤد کو دوسرا کتاب کبھی نہ دیتا
اور اگر داؤد کی کتاب بکار رہنے والی کٹی ہوتی تو اللہ اپنی انجیل میرے حوالے نہ
کرتا اس لیے کہ پروردگار ہمارا معبود غیر متغیر ہے اور البتہ اس نے ایک ہی
بیان تمام انسانوں کے لیے کہا ہے پس جبکہ رسول اللہ آئے گا وہ اس لیے

Click

آئے گا کہ ہر اس چیز کو جسے میری کتاب میں سے بدکاروں نے خراب کر دیا ہے
اسے پاک کرے۔

فصل ۱۲۳ ص ۱۸۳

۳ — تب اس وقت یوسع نے کہا تحقیق تھا را کلام مجھ کو کچھ تسلی نہیں
دیتا اس لیے کہ ایک ایسا اندھیرا آنے والا ہے جس میں کہ تم روشنی کی امید ہی کیا
کر دے گے مگر میری تسلی اس رسول کے آنے میں ہے جو کہ میرے بارہ میں ہر جھوٹے
خیال کو محو کر دے گا اور اس کا دین پھیلے گا اور تمام دنیا میں عام ہو جائے گا۔
کیونکہ اللہ نے ہمارے باپ ابراہیم سے یوں ہی وعدہ کیا ہے اور جو چیز مجھ
کو تسلی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس رسول کے وین کی کوئی حد نہیں اس لیے کہ اللہ
اس کو درست اور محفوظ رکھے گا کہاں نے جواب میں کہا کیا رسول اللہ کے آنے
کے بعد اور رسول محبی آئیں گے یہور ع نے جواب دیا اس کے بعد خدا کی طرف سے
بھیجے ہوئے سچے بنی کوئی نہیں آئیں گے مگر جھوٹے نبیوں کی ایک بڑی بھاری
تعداد آئے گی اور یہی بات ہے جو کہ مجھے رنج مرتی ہے اس لیے کہ شیطان ان
کو عادل اللہ کے حکم سے بھڑکا میے گا پس وہ میری انجلیل کے دعویٰ کے پردے
میں چھپیں گے۔

فصل ۹ ص ۱۲۵

۴ — مُرجب اللہ مجھ کو دنیا سے اٹھائے گا تب شیطان دوسری دفعہ
اس مرن فتنے کو پھر لویں اٹھائے گا کہ غیر متعمق کو یہ اعتقاد کرنے پر آمادہ بنائے گا
کہ میر یوسع اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا اس کے سبب سے میرا کلام اور میری تعلیم جس
ہو جائے گی یہاں تک کہ قریب قریب میں مومن بھی باقی نہ رہیں گے اس وقت
اللہ دنیا پر حکم کرے گا اور اپنے اس رسول کو بھیجے گا کہ اُسی کے لیے سب چیزیں
بیدا کی ہیں وہ نبی کہ جنوب سے قوت کے ساتھ آئے گا اور نبؤ اور بتاؤں کی
پوجا کرنے والوں کو ہلاک کرے گا اور شیطان سے اس کی حکومت چھین لے گا

Click

جو سے انسانوں پر حاصل ہے اور وہ ان لوگوں کی نجات کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے اللہ کی رحمت لائے گا اور جو اس کے کلام پر ایمان لائے گا وہ مبارک ہو گا۔

فصل ۹۶ ص ۱۳۲

تبصرہ

ا — برباس کی ان عبارات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واضح ثبوت موجود ہے اور انھیں کار رسول منتظر ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو رہا ہے۔

انجیل و قرآن کی موافقت

۳ — عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور ان کے نام پر یہودا سکریوٹی کا مصلوب ہونا اور اس کی حکمت بھی صراحتہً مذکور ہے اور یہی مضمون قرآن مجید و فرقان حمید نے بھی بیان فرمایا۔ «وَمَا قَاتَلُوا هُنَّا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ دَمَّا قَاتَلُوا هُنَّ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ» لہذا انجیل و فرقان کی اس مطابقت و موافقت نے مزراں دعویٰ کا بطلان واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے بلکہ آپ نے خود ہی اعلان فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرب قیامت تک زندہ رہنے کی اجازت اور مہلت عطا فرمائی ہے اور یہی مضمون احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ قیامت کے قریب آپ زمین پر تشریف لائیں گے اور حضرت مہدی کی معاونت فرمائیں گے و جاں کو قتل کریں گے اور بالآخر فوت ہو کر روضہ القدس میں مدفون ہوں گے اور خود آپ نے ہی اعتراف کیا کہ

Click

میرے مقتول و مصلوب ہونے کی پذیراً اور داع غرف محمد رسول اللہ ہی دور فرمائیں گے۔ اور آپ نے یہود و نصاریٰ کے اوہام وطنوں کے برعکس آپ کی حیات کا واضح اعلان فرمایا اور زندہ آسماؤں پر اٹھائے جانے کا پروچار کیا۔

۳. مزرا قادیانی کا کذب و افتراء

عیسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان سے کہ محمد رسول اللہ کے بعد سچا نبی کوئی نہیں ہوگا اور جھوٹے نبیوں کی بھاری تعداد ظاہر ہوگی اور اس جماعت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میری انجیل کے دعویٰ کے پردے میں چھپیں گے اس عبارت سے مرغنا غلام احمد قادیانی کا کذب و افتراء اور جھوٹ و فریب پوری طرح ظاہر ہے اس سنہ بھی مسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ نسلی ربط و تعلق کا دعویٰ کر کے اس پردے میں چھپنا چاہا۔ مگر انجیل بنیاس اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی قلمی کھول دی اور خود رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد میں کے قریب و جال و کذاب ظاہر ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور آخری مسیح و جال ہو گا جو الوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ اس طرح احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل میں مکمل اتفاق و اتحاد واضح ہو گیا۔

۴. وہ نبی جنوب سے پوری قوت کے ساتھ آئے گا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح فرمانے کے علاوہ آپ کے دیگر امتیازی علامات بھی بیان فرمائے مثلاً جنوب سے پوری قوت کے ساتھ ظاہر ہونا اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے

کہ مکہ مکرہ اور مدینہ منورہ بیت المقدس کے جنوب میں واقع ہے اور آپ نے افواج دعا کر کے ساتھ ظہور فرمایا اور آپ کے غلاموں کی ان افواج نے تمام فلسطین اور شام و عراق کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور خداوند کی پادشاہی قائم کی۔

اور اس حقیقت کا اظہار حزقيل باب ۲۱، اتا ۳ میں اس طرح کیا گیا ہے
”بھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ لے آدم زادیر و شلم کا رخ کر اور مقدس مکانوں سے مخاطب ہو کر ملک اسرائیل کے خلاف بیوت کر، اور اس سے کہہ خداوندیوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اپنی تلوار میان سے نکال لوں گا اور تیرے صادقوں اور تیرے شرپوں کو تیرے درمیان سے کاٹوں گا۔ پس چونکہ میں تیرے درمیان سے صادقوں اور شرپوں کو کاٹ دوں گا۔ اس لیے میری تلوار اپنے میان سے نکل کر جنوب سے شمال تک تمام شہر پر چپے گی اور سب جانیں گے کہ میں تیرے اپنی تلوار میان سے کھینچی ہے وہ بھراں میں نہ جائے گی۔

ملک اسرائیل کے خلاف خداوند تعالیٰ کا یہ اعلان اور جنوب سے شمال تک تمام شہر پر چلنے کی تصریح اس امر کی غماز ہے کہ اس جنگ و جدال اور حرب و قتال کا مرکز ملک اسرائیل سے باہر اور اس کے جنوب میں ہو گا اور وہاں سے شمال تک وہ تلوار حلیتی جائے گی اور تاریخ کے اوراق گواہ میں کہ وہ تلوار جنوب سے نکلی اور ملک اسرائیل کو اپنی گرفت میں لے کر ہی رہی اور اوثان و اصنام اور ان کے پیغمبریوں کا خاتمه کیا اور شیطان کی حکومت اور اس کا تسلط ختم کر دیا۔ **بِذَٰلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ**

— یہ حقیقت بھی ان عبارات سے رذروشن کی طرح عیا ہے کہ اس وقت حق تلاش کرنا ہو تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں ہی مل سکتا ہے کیونکہ بقول یسوع علیہ السلام تورات میں گڑ بڑ کی گئی توزیع

Click

اتری، اس میں تغیر و تبدل ہوا تو انجدیل اتاری گئی اور اس میں تحریف و تغیر کر دی گئی تو قرآن کا نزول ہوا۔ لہذا اب حق کی طرف راہنمائی صرف اسی سے حاصل ہو سکتی ہے ز کہ کسی دوسری آسمانی کتاب سے اوزنیوں میں سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ کی تسلی و اطمینان کا بب آپ کی تشریف آوری ہے تو پھر امت کے لیے کیونکہ آپ کاظہور موجب ہمایت و سکون نہیں ہو گا لہذا جو عیسیٰ بن مریم کے لیے قرار جان اور سکونِ روح ہے وہی ہمارے لیے بھی سامانِ تسلیم اور باعثِ اطمینان۔

مختصر

http://t.me/Tehqiqat

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

رسولِ مُعْطَم کو چاند کی لوریاں فریبا

اور

چاند کو ان کا مٹھیوں میں لینا

میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تحقیق چاند اس کو اس کے بچپن میں سلانے کے لیے لوریاں دے گا اور جب وہ رسول پڑا ہو گا تو اس چاند کو اپنی دونوں تھیلیوں سے پکڑے گا۔ (انجیل برنسیاس فصل ۲، ص ۱۱۰)

تبصرہ

اس عبارت میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کمالات کی طرف اشارہ ہے ایک بچپن سے متعلق ہے کہ جب آپ مہد میں رہتے تو چاند آپ کے ہاتھوں کے اشاروں پر رقص کرتا تھا اور جدھر آپ کے ہاتھ مائل ہوتے رہتے چاند بھی ادھر ہی جھجک جاتا تھا اور چاند آپ کا دل بہلانے کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو بھی کرتا تھا جیسے کہ حضرت عباس بن عبدالمطلب سے مردی ہے کہ انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ نے دین میں داخل ہونے پر آپ کی اس امارت بوت اور دلیل رسالت نے مجبور کیا جو میں نے آپ کے بچپن میں دیکھی تھی۔ *وَرَأَيْشَدَ فِي الْمَهْدِ مَا رَأَى لِقَمَرَ وَثِيرَ*

Click

إِلَيْهِ بِاِصْبَاعِ فَحَيَّتْ اَشَرْتَ إِلَيْهِ مَا لَقَالَ اِنِّي كُنْتُ اَحَدٌ شَهَدَ وَمَجَادَثُ
وَمُلْهِمَتُ عَنِ الْبَكَارِ وَقَاسَمَ وَجَبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَنْشِ
میں نے آپ کو پیگھوڑے میں دیکھا کہ آپ چاند کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور اپنی
ہنگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے پس جس جگہ آپ اشارہ کرتے تھے وہ دھر
ہی مائل ہو جاتا آپ نے فرمایا میں اس سے گفتگو کرنا نہ کھا اور وہ مجھ سے بات چیت
کرتا تھا اور مجھے ردنے سے باز رکھتا تھا اور میں اس کے عرش خداوندی کے سامنے
سجدہ رینہ ہونے پر سجدہ سے پیدا ہونے والی آواز کو سنتا تھا۔

اس روایت کو بہیقی نے نقل کیا ہے اور صابوونی نے اپنی "ماستین"
میں اور خطیب و ابن عساکر نے اپنی اپنی تاریخ میں اور صابوونی نے کہا ہے کہ یہ اگرچہ
سنده و متن کے اعتبار سے غریب ہے مگر معجزات میں ایسی روایات حسن اور قابل
قبول ہوا کرتی ہیں۔ (ملاحظہ ہو خدا اُنصُر کبریٰ جلد اول ص ۵۳)

اور وہ سراکمال اور اعجاز جس کی طرف انجمیل برنسیس کی یہ عبارت اشارہ کرتی
ہے وہ شق القمر والامعجزہ ہے جو مشہور و معروف ہے اور قرآن مجید کی اس آیت
کریمہ اقتدرتہ استَأْعَذَهُ وَالشَّقَّ الْقَمَرَ میں بھی ایک تفسیر ہے کہ سرو
عام مصلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ سے چاند کا دلخت ہونا قرب قیامت کی علامت
ہے الغرض احادیث و روایات اور کلام مجید میں بھی سید عرب و عجم مصلی اللہ علیہ
 وسلم کے یہ دونوں کمال منقول ہیں اور انجمیل میں بھی جس سے آپ کا برحق نبی ہونا
اویسی کتابوں کی تصدیق کرنا اور ان کی بیان کردہ علامات پر پورا اتر کر کے ان کا
تسعیق کرنے کا ہونا واضح ہے۔ والحمد للہ

شبِ میلاد کی تعظیم اور اس سے حصول برکت

۱ — اور آدھی رات کی نماز کے بعد شاگرد یوسع کے قریب گئے تب یوسع نے ان سے کہا یہی رات میتیار رسول اللہ کے زمانے میں سالانہ جو بلی ہو گی جو کہ اس وقت ہر سو برس پہنچاتی ہے اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم سو رہیں بلکہ یہ کہ ہم سومرتیہ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے نماز پڑھیں۔ اپنے قادر ہی رحیم محبوب کے لیے سجدہ کریں جو کہ ابدیک مبارک ہے۔

انجیل برنباس فصل ۸۲ ص ۱۲۵

۲ — ہمیں اللہ کا خیکر کہنا چاہیئے کہ اس نے ہم کو اس رات میں ایک بڑی رحمت عطا کی ہے کیونکہ وہ اس زمانہ کو مپھرو اپس لا یا جس کا اس رات میں گزنا لازم ہے اس لیے کہ تحقیق ہم نے یکجہتی کے ساتھ رسول اللہ کے ہمراہ دعا مانگی اور تحقیق میں نے اس کی آواز سنی۔ دبرنباس فصل ۸۳ ص ۱۲۶

تبصرہ


ان دونوں عبارات سے حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک شبِ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور غلطت نمایاں ہے کہ وہ اس میں یند کو نامناسب

Click

سمجھتے ہیں بلکہ عبادات کر کے زیادہ سے زیادہ برکات اور فیوض حاصل کرتے کے درپیے میں اور اپنے حواریوں کو بھی اسی امر کی تلقین فرماتے ہیں مقام غور ہے کہ جس رات کی برکات سے ایک عظیم نبی و رسول خود بھی مستحق ہونے کا متمنی ہے اور اپنے خواص کو بھی تلقین کر رہا ہے اس پیغمبر آخر الزماں کے امتی کہلانے والے اس میں غفتت کی بنندسوئیں اور اس میں عبادت و ریاست کو بعدت قرار دیں تو اس سے بڑھ کر محرومی اور یتصیبی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے نیز الحبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی نہیں تھی تو اس رات سے برکت حاصل کرنا درست تھا توجب ولادت ہو چکی اور وہ رات اس غلیم فضیلت سے بہرہ ورہ ہو چکی تو اب برکات کا حصول کیونکہ منوع ہو سکتا ہے۔ بلکہ علماء محققین اور ائمہ کرام کے نزدیک وہ رات لیلة القدر سے بھی کٹی گئی افضل داعی ہے۔ امام احمدؓ نے شب جمعہ کو شب علوق تو مصطفوی ہونے کی وجہ سے لیلة القدر سے افضل قرار دیا اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے فرمایا جب شب علوق لیلة القدر سے افضل ہے تو شب میلاد بطرق اولی افضل ہو گی۔ **وَكَذَا صَرَحَ بِهِ الْعُلَمَاءُ**

نیز عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر خبریات تشکر سے لہریتے ہیں کہ مستقبل کو حال بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول کا دیدار عطا کیا اور ان کے ساتھ مل کر دعا مانگنے کا موقع فراہم کیا اور ان کی آواز سنوائی تو خوشنامیں ان صحابہ کرام کے حجنوں نے عرصہ دراز آپ کی خدمت میں گزارا، دیدار سے آنکھوں کو منور کیا اور آپ کے مواعظ و خطبات سے کانوں کو اور آپ کے انوار و تجلیات سے دلوں کو منور کیا اور جس کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سعادت نصیب ہواں کے فضل و کمال

کے ساتھ دنیا کے اغوات و اطلب کی عمر بھر کی عیادت میں بربادی نہیں کر سکتیں
تو عمر سہ دلار اور درست مریدہ مگر مذکور خدمت رہنے والیں اور مال فروخت
عزمت و آبرو اور حیات و دول سے قریان ہونے والیں کے مرتبہ کا اندر ڈرہ
کون کر سکتا ہے؟



http://t.me/Tehqiqat

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سالانہ جو بیلی یا جشن عید میلاد اور رسول ﷺ

میلاد پاک کی رات کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان کہ "یہی رات مسیار رسول اللہ کے زمانہ میں سالانہ جو بیلی ہوگی" اس امر کی عنایت ہے کہ آپ اہل اسلام کے اس رات اور دن کو بطور عید اور جشن منانے کا علم رکھتے تھے اس سے جہاں آپ کا مستقبل میں وقوع پذیر ہے امور عجیب پر مطلع ہونا ثابت ہوتا ہے وہاں اس رات اور دن کو مسرت و شادمانی اور فرحت و خوشی کے اظہار کا پسندیدہ امر ہونا بھی واضح ہوتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "قُلْ يَهْبِطِ اللَّهُ دِيْرَحْمَتِهِ فَإِذَا لَكَ فَلَيَضْرِبُ حَوْا" فرمادیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قضل اور اس کی رحمت پر فرحت و شادمانی کا اظہار کریں اسی لیے نواب صدیق حسن بھجو پانی غیر مقلد نے بھی شمامہ عنبریہ کے اندر تصریح کر دی ہے "رسو جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکرِ خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔"

(شمامہ عنبریہ ص ۱۲)

یاد رہے اس رات سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات نہیں ہو سکتی

تبلیغ

Click

کیونکہ اس طرح تو دو عیدیں اور دو جو بلیاں لازم آئیں گی پھر عیدین میں صرف دن کو مخصوص عبادت کا اہتمام ہوتا ہے نہ کہ رات کو علاوہ ازیں صرف ایک عید مراد یعنی ترمیح بلا مرتجع ہے جبکہ شب ولادت کی عیدان دونوں عیدوں کی جان ہے اور ان کے لیے مدار و نبیاد، لہذا اس کے مراد ہونے میں وجہ ترمیح واضح ہے۔
واللہ در رسولہ اعلم



http://t.me/Tehqiqat

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پیغمبر اُخْر الزَّمَل علیہ الصلوٰۃ و السَّلَام کا فضائل میں

انبیاء علیہم السَّلَام سے سہ چند حصہ وصول فرماتا

اور اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ بے شک رسول اللہ ایک روشنی ہے جو تقریباً تمام مصنوعات باری کو مسرور کرے گا، کیونکہ وہ فہم اور مشورت کی روح سے آراستہ ہے حکمت اور قوت کی روح سے خوف اور محبت کی روح بے بینش اور اعتدال کی روح سے دوہم محبت اور رحمت کی روح سے آراستہ ہے عدل اور تعویض کی روح سے لطف اور صبر کی روح سے الیسی روحیں کہ مجملہ ان کے اس رسول نے اللہ سے سہ چند حصہ اس کا لیا ہے جو کہ اللہ نے اپنی تمام خلوقت کو عطا کی ہیں وہ کیسا مبارک زمانہ ہے جس میں کہ یہ رسول (دنیا میں آئے گا) تم مجھے سچا مانو، ہر آئینہ میں نے اس کو دیکھا اور اس کے سامنے عزت و حرمت کو پیش کیا (اس کی تعظیم کی)، ہے جیسا کہ اس کو ہر ایک نبی نے دیکھا ہے کیونکہ اللدان زہیوں (کو اس (رسول) کی روح بطور پیشینگوئی کے عطا کرتا ہے اور جبکہ میں نے اس کو دیکھا میں تسلی سے بھر کر کہنے لگا، اے محمد اللہ تیرے ساتھ ہو اور مجھ کو اس قابل بنائے کر میں تیری جو قی کا تسمہ کھولوں کیونکہ اگر میں یہ دشرف احصال کر لوں تو بڑا نبی اور اللہ کا قدوس ہو جاؤں گا اور جبکہ لیسوع نے اس بات کو کہا اس نے اللہ کا شکر کردا کیا۔ (بنی اس مص. فصل ۲۲۳۔ آیت ۲۲۳ تا ۲۲۴)

تبصرہ

اس عبارت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کمال کو محیط ہونا اور انہیاں علیہم السلام سے سہ چند حصہ ہر کمال کا حاصل کرنا ثابت ہے اور یہی عقیدہ اہلِ سلام کا ہے۔ ۷

حسن یوسف دم غنیٰ یہ پیشاداری نہ آپ بخوبی ہمہ دارند تو تنہاداری بلکہ اہل اسلام کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر کمال درحقیقت اصالۃؐ آپ میں ہے اور بطور نظر و حکس اور پر تو کے دوسرا مخلوق میں ہے اور یہی حقیقت مرود رام مصلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد "آنَا مِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْخَلْقُ مُكَهْمَ مِنْ نُورِي" اور مرکوز لکھائیت الادعاء کے "اور" آنَا بَيْتُ الْأَنْبِيَاءؐ کی ہے۔

مولوی حسین احمد مدفنی دیوبندی شہاب الدافت مص، ۲۳ پر رقمطراز ہیں:-
«ان کا دراکا بر دیوبند کا کاعقیدہ یہ ہے کہ ازال سے اب تک جو جو حستیں علم پر ہوئیں اور ہوں گی فام ہے وہ نعمت موجود کی ہو یا کسی اور قسم کی، ان سب میں آپ کی ذات پاک ایسی طرح پر واقع ہوئی ہے کہ جیسی آفتاں سے نور چاند میں آیا ہوا درجانہ سے نور ہزاروں آئینوں میں غرضیکہ حقیقت محمدیہ علیے صاحبہ الصلوٰۃ والسلام

واسطہ جملہ کمالات عالم و عالمیان ہیں نبھی معنی کو لاوک لاخلفت میں الادعاء
اور اَوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٌ اور آنَا بَيْتُ الْأَنْبِيَاءؐ وغیرہ کے ہیں۔




Click

خدا کے تعالیٰ سورج اور رسول خدا علیہ السلام چاند

اس حقیقت کی مثالیں دیتے ہوئے ان جیل بربادی میں مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے "میں تھا راخدا جنت کا سورج ہوں اور میرا رسول چاند ہے جو کہ مجھے سے ہر شے میں مدد حاصل کرتا ہے اور ستارے میرے وہ انبیاء میں حنبوں نے کہ تم کو کچھ بشارت دیتے ہیں۔ فصل ۲۵۶ ص ۲۵۶

الغرض ان جیل مقدس سے آپ کا جامع جمیع کمالات انبیاء مہونا بھی واضح ہو گیا اور سرکمال میں مخلوق کے لیے نیج اور سرحت پر ہونا بھی اور تمام کمالات جسمانیہ و روحانیہ میں مخلوق کا آپ کی طرف محتاج و منقصر ہونا بھی۔
والحمد للہ علیٰ ذالک۔

اس کے علاوہ آپ کا نور ہونا بھی ظاہر اور آپ کے زمانہ ظہور کا نگاہ انبیاء میں انتہائی بارکت ہونا بھی واضح اور تمام انبیاء کا آپ کے دیدار سے فیضیاب ہونا اور ان کے حضور سلام و نیاز اور آداب بجا لانا وغیرہ بھی واضح،



منصبِ رحمۃ اللہ علیٰ میتی

ا—— اور میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ رسول اللہ تک وہاں جہنم کے کنارے،
 جائیں گے تاکہ اللہ کے عدل کو بھیں تب اس وقت دوڑخ ان کے تشریف لانے
 کے سبب سے کاپنے لگے گی اور اسی وجہ سے کہ وہ رسول انسانی جسم رکھتے ہیں
 ہر انسان بدن رکھنے والے پر سے جن پر عذاب کا حکم نافذ کر دیا گیا ہے۔ عذاب
 المٹایا جائے گا پس وہ رسول اللہ کے جہنم کو ملا خطر کرنے کے لیے مُھْمَر نے
 کی مدت تک بغیر عذاب برداشت کرنے کے رہے گا، لیکن رسول اللہ وہاں
 نہ مُھْمَر گے مگر صرف ایک پلک مارتے کے وقفہ تک اور اللہ یہ محض اسیلے
کرے گا تاکہ تمام مخلوق اس بات کو جان لے کہ اس نے رسول اللہ سے کچھ نہ
کچھ فائدہ حاصل کیا ہے اور جب رسول اللہ وہاں گئے شیطان غل مچائیں گے
 اور آگ کے دیکھتے انگاروں کے نیچے چینے کی کوشش کریں گے۔ درآں حالیکہ
 ان میں کا ایک دوسرے سے کہتا ہو گا سجا گو بھاگو اس لیے کہ ہمارا شمن محمد
 رضی اللہ علیہ وسلم (آگیا) پس جبکہ شیطان اس بات کو سنے گا وہ اپنے منہ پر ڈکھپڑ
 مار کے شور کرتا ہوا کہے گا یہ میرے خلاف مرضی مجھ سے بترہ ہوا ہے اور یہ بات
 محض بے انصافانہ کی گئی ہے۔ فصل ۱۳۶ ص ۲۰۳۔ آیت ۱۵، ۱۶

Click

تہصرہ

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے اور ہر شئے کسی نہ کسی طرح اس سے فیضیاب ہے اور یہی مضمون کلام مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے ”وَمَا أَزَّ سَلْطَنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اور شیطان کا اس وقت بھی بد باطنی کا مظاہرہ کرنا۔ ماہ فتناند نور سگ عو عوکند، کے متراوف ہے اور یہی شان رحم و کرم الگی عبارات سے بھی نمایاں ہے۔ لبڑا سی توجہ درکار ہے۔

— میں تم سے پسچ کہتا ہوں کہ ہر ایک نبی جب وہ آتا ہے وہ فقط ایک ہی کام کے لیے اللہ کی رحمت کا نشان اٹھا کر لاتا ہے اور اسی وجہ سے ان انبیاء کا کلام اس قوم سے آگے نہیں بڑھا جس کی جانب وہ بھیجے گئے تھے لیکن رسول اللہ جب آئے گا اللہ اس کو وہ چیز عطا کرے گا جو کہ اس کے ہاتھ کی انگشتی کی مانند ہے پس وہ زمین کی ان تمام قوموں کے لیے خلاص اور رحمت لئے گا جو اس کی تعلیم کو قبول کرے گی۔ فصل ۲۳ ص ۹۸۔ آیت ۱۵۰۔

تہصرہ

اس عبارت میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خاتم النبیین کی طرف اشارہ ہے اور مہربوت کی طرف اور اس شان خاتمیت کی وجہ سے آپ سب خلافیت کے رسول اور مقصد اور قرار پائے۔ ۵

شیریں دہنیاں پادشاہ انزوں
اویسیمان است کہ خاتم با اوست

Click

یہ مضمون قرآن مجید میں وَالْكِتَابُ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، وغیر ذلك من الآيات میں بیان کیا گیا ہے۔

۳— اس وقت یوسف نے کہا جائیو اس میں شک نہیں کہ برلنیزی کا سابق میں ہو جانا ایک بڑا بھاری راز ہے تا آنکھ میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ آئے صاف طور پر نہیں جانتا مگر فقط ایک ہی انسان اور وہی انسان ہے کہ جس کی طرف تو میں گردن اٹھا کر دیکھ رہی ہیں وہ ایسا انسان ہے کہ ائمہ کے راز اس پر پوری طرح واضح اور جلی ہوں گے پس زہے نعیب ان لوگوں کے جو اس کے کلام پر کان لگائیں گے جیکہ وہ دنیا میں آئے گا اس لیے کہ ائمہ اس پر سایہ کرے گا جیسے کہ یہ کھجور کا درخت ہم پر سایہ کر رہا ہے۔ ہاں بے شک جس طرح یہ درخت ہم کو جلانے والے آفتاب کی دھوپ سے بچاتا ہے ویسے ہی ائمہ کی رحمت ایمان والوں کو اس نام کے ذریعہ شیطان سے بچائے گی، شاگردوں نے جواب میں کہا اے معلم وہ آدمی کون ہو گا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب آئے گا۔ یوسف نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا بے شک وہ محمد رسول اللہ ہے اور حب وہ دنیا میں آئے گا تو اس اصلی رحمت کے وسیلہ سے جس کو وہ لائے گا انسانوں کے مابین نیک اعمال کا ذریعہ ہو گا۔ اس طرح سے کہ میہنہ زمین کو بچل دینے والی بنادیتا ہے۔ بارش کے عرصہ دراز تک بند رہنے کے بعد پس وہ سفید ابر اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے اور یہی رحمت ہے کہ ائمہ ایمان والوں پر اس کی بھوار پانی کی بوندوں کی طرح منتار کرے گا۔

محشر کے دن پہنچیں اُخْرَ الزَّمَانِ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا ہزار سورج کی
طرح چمکتا اور انپیار و ملائکہ کا ان کے گرد جھپڑتے

۳ — اور جبکہ چالیس سال گزر جائیں گے (دیہی مرتبہ صور بچرنے کے
جانے پر) اسی پنے رسول کو زندہ کرے گا جو کہ اس وقت بھی سورج کی
طرح نکلے گا مگر یہ کہ وہ چمکتا ہو گا ہزار سورجوں کی طرح پس وہ بیٹھے گا اور
کوئی بات نہ کرے گا اس لیے کہ وہ بدحواس جیسا ہو گا اور اللہ چار فرشتوں
کو بھی الٹھائے گا جو کہ اللہ کے نزدیکی میں اور وہ رسول اللہ کو تلاش کریں
گے پھر جب اس کو پا جائیں گے اس کی جگہ کے چاروں کونوں پر اس کے محافظہ
بن کر کھڑے ہو جائیں گے بعد ازاں اللہ تمام فرشتوں کو زندگانی بخشے گا
جو کہ شہد کی مکھیوں کی طرح آگر رسول اللہ کے گرد حلقة کر لیں گے اور اس کے
بعد اللہ اپنے جملہ بیویوں کو حبان دے گا جو سب کے سب آدم کے نیچے ہو کر آؤیں
گے پس وہ رسول اللہ کا ہاتھ اپنے آپ کو اس کی نگہبانی و امداد کے جائے پناہ
میں رکھتے ہوئے چو میں گے پھر اس کے بعد اپنے تمام برگزیدہ بندوں
کو زندہ کرے گا جو کہ سورج مجاہیں گے کہ اے محمد ہم کو یاد کر۔ پس رسول اللہ
کے دل میں ان کی چیخ و پکار سے رحم کو جذبیش ہو گی اور وہ ڈرتے ڈرتے
غور کرے گا کہ ان کے جھپٹکاے کے لیے کیا کرنا لازم ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

فصل ۵۲ - ص ۸۴، ۸۵، ۸۶۔ آیت ۳ تا ۱۱

تبصرہ

اس عبارت میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزار سورجوں کی طرح روشنی

Click

ہونا مذکور ہے جس سے اس سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم اور آسمانی سراج وہاں
کے درمیان فرق کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور جو حقیقت یہاں پہاں
لبثی میں مبتور ہونے کی وجہ سے مخفی رہی بلکہ تنازع فیہ نبادی کی کشف
حصالق کے دن ہر ایک اس کا مشاہدہ کرے گا، پھر تمام ملائکہ مقربین اور دیگر نبیوں
کا اس محبوب کے گرد جھرمٹ اس امر کی بین دلیل ہے کہ روز محسن کا دو لہماں یہی
ہے اور اس دن میں انھیں کی غلطت اور محبوبیت کا اظہار مقصود ہے، تمام انبیاء
ورسل علیہم السلام کا اپنے آپ کو سرور عالم و عالمیان کے زیر سایہ سمجھنا اور آپ
کو ملجمار و مادی یقین کرنا اور آپ کی دست بوسی کرنا باوجود دیکھ ان میں خلیل و
کلیم اور ابوالانبیاء آدم اور دیگر اکابر موجود ہوں گے اس شان محبوبی اور
غلطت درجات اور رفتہ مراتب کی واضح دلیل ہے اور اسی طرح ان کا یہ
اجماعی فعل اکابر کی دست بوسی کے جواز کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ والحمد
للہ علی ذا الک.

تیز سب بر گزیدہ لوگوں کا بھی شور مچا کر آپ سے رحم و کرم کی اپیل کرنا
اس امر کی روشن دلیل ہے اور بین برہان ہے کہ سب اہل محسن سوانعے آپ
کی ذات اقدس کے دوسرا کوئی آسر اور سہارا نہیں پائیں گے جب وہاں
سوائے ان کے کوئی آسر اور سہارا نہیں ہے تو پھر یہاں ان کو واسطہ و سیلہ
ماننے میں ہمچکیا ہرست کا کیا جواز ہے؟ ۱۷


آج لے ان کی پتناہ آج مدد مانگ ان سے
پھرنہ مانیں گے قیامت میں اگرہ مان گیں

یہی مضمون قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے اور شفاعت غلطی کا آپ
کے خصالوں میں ہوتا ہل اسلام کے نزدیک سچے حقیقت سے اور یہ حقیقت

[Click](#)

انجیل نے بھی واضح کر دی تو گویا یہ عقیدہ صرف اہل اسلام کا ہی نہیں بلکہ انہیاں سابقین نے بھی اپنی امتوں کو یہی تعلیم دی ہے اگر کوئی شخص اسلام کا دعویدار بھی ہوا اور سرور کو نہیں علیہ السلام کے اس اعزاز و اخصال کا انکار کرے تو گویا وہ ان عین نبیوں سے بھی گیا گزر رہے۔

۵ ————— اور رسول اللہ تمام نبیوں کو جمع کرنے جائے گا اور قسم ہے اللہ کی زندگانی کی کہ میں بھی بے شک وہاں نہ جاؤں گا کیونکہ میں جانتا ہوں جو کچھ کہ جانتا ہوں اور جس وقت کہ اللہ اس بات کو دیکھے گا وہ اپنے رسول کو یاد دلائے گا کہ کیونکہ اس نے سب چیزوں کو اس کی محبت کے لیے پیدا کیا ہے تب اس رسول کا خوف جاتا ہے گا اور وہ محبت اور ادب کے ساتھ عرش کی طرف بڑھے گا۔۔۔۔ الخ و مفصل عبارت گزر چکی ہے، فصل ۵۵-ص ۸۶



پیغمبر آخر الزماں کے خصوصی علامات کا بیان

— باقی رہا میرا خاص معاملہ سو میں تحقیق اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ کے واسطے جواب جلد دنیا کے لیے ایک خلاص اور چھٹکارے کا ذریعہ لے کر آئے گا راستہ صاف کہ دل لیکن تم اسی بات سے ڈرتے رہو کہ دھوکا نہ دیئے جاؤ اس واسطے کہ بعد میں بہت سے چھٹے نبی آئیں گے جو میرے کلام کو اخذ کریں گے اور میری انجیل کو ناپاک بنائیں گے تب اس وقت اندر اوس نے کہا اے معلم ہمارے لیے کوئی نشانی بتاتا کہ ہم اسی رسول کو پہچانیں یہ یوں نے جواب دیا ہے شک وہ تھارے زمانے میں نہ آئے گا بلکہ تھارے بعد کئی برسوں کے گزرنے پر جس وقت کہ میری انجیل باطل کروی جائے گی اور قریب قریب تیس مومن بھی نہ پائے جائیں گے اس وقت میں اللہ دنیا پر حکم کرے گا پس وہ اپنے اسی رسول کو پہیجے گا جس کے سر پر ایک سفید ابر کا مکمل اقرار پذیر ہو گا۔ اس کو ایک اللہ کا برگزیدہ پہچانے گا اور وہ اسے دنیا پر ظاہر کرے گا اور وہ رسول بدکاروں پر بڑی قوت کے ساتھ آئے گا اور ہم کی پوجا کو دنیا سے ناپود کر دے گا۔ تا۔۔۔ میں تم سے پنج کہتا ہوں کہ تحقیق چاند اس کو اس کے بچپن میں سلانے کے لیے دوریاں دے گا اور جب وہ رسول بڑا ہو گا تو اس چاند کو اپنی دنوں ہتھیلیوں سے پکڑ لے گا۔۔۔ تا۔۔۔ او۔۔۔ ایک سال سے حق کے ساتھ آئے گا

Click

جو تمام نبیوں کے حق سے واضح تر ہوگا اور ہمارے باپ دادا کے شہر کے درج خوشی کی وجہ سے ایک دوسرے کو مبارکیا دیں گے پس جس وقت کہ ہم کی پوجا کا زمین سے دور ہونا دیکھا جائے گا اور یہ اقرار کیا جائے گا کہ یہ شک میں بھی تمام انساتوں جیسا ایک انسان ہوں تو میں تم سے پسح کہتا ہوں کہ تحقیق اللہ کا نبی اسی وقت آئے گا۔

فصل ۲۷۔ ص ۱۰۹، ۱۱۰

تبصرہ

اس عبارت سے درج ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) پسغیر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے درمیں نہیں بلکہ بہت عرصہ بعد تشریف لائیں گے جبکہ انجیل باطل کر دی جائے گی اور تیس موسم بھی باقی نہ رہیں گے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ایسے ہی موقع پر ہوا۔ نہ انجیل اصلی حالت میں دستیاب ہتھی اور نہ ہی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام موجود ہتھی بلکہ نبی و رسول ہونے کی بجائے تشییع کے باطل عقیدہ نے رواج پکڑا اور تہذیب و اخلاق اور پابندی شرع کی جگہ کفارہ کے غلط اور بے نیاد عقیدہ نے سنہال لی اور ہر بے راہ روی اور ضرائقی کو اس غلط عقیدہ کی بنیاد پر ناقابل مواخذہ قرار دیدیا گیا اور کھل کھیلنے کی اجازت دے دی گئی۔

(۲) پسغیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پرسفید ایہ کے سایہ فکن ہونے والے ایک بزرگ نیدہ شخص کے آپ کو پہچان لینے کا جو یہاں ذکر ہے کتب سیر میں اس کی صداقت کا بھی تم خود مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ سفر شام میں جبکہ آپ بغرض تجارت اپنے شفیق چھا جناب ابو طالب کے ہمراہ تھے آپ کی سبھی امتیازی شان ظاہر ہوئی اور بھیرا رہتے اسی صورت حال کو دیکھ کر انھیں مشورہ دیا کہ اس مقدس شخصیت

Click

کو یہیں سے واپس بیچ دو ورنہ یہودان کے خلاف ہر ممکن سازش سے گزینہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس امرت کے نبی یہاں اور یہود اور اہل حدیثی اسماعیل میں سے ہونے والے نبی کو برداشت نہیں کر سکتے، امام سیوطیؒ نے خصالق کبریٰ میں مستقل باب اس عنوان سے قائم کیا ہے : «سفر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع عمه الجطالبی الشام دما ظهر من الآیات والجواب بحیرا عنہ (ص ۸۳ ح ۱) اور اسی طرح علامہ ابن الجوزیؒ نے الوفا جلد اول ص ۱۳۱ میں مستقل عنوان کے تحت اس مضمون کی روایات درج کی ہیں کہ سعید راہب نے آپ کو دیگر علمات کے ساتھ ساتھ یادوں کے سایہ فکن ہونے کی وجہ سے پہچان لیا اور جانب ابو طالب اور دیگر اہل قافلہ پر ان کی شان نیوت کو ظاہر کیا اور آپ کو دیہی سے بھجوانے کا انتظام کیا اور جو یہود آپ کی تلاش میں وہاں تک آپنے نکلنے ان کو سمجھایا اور عدالت سے باز رکھا۔

(۲) وہ رسول بُکاروں پر بُڑی قوت کے ساتھ آئے گا اور ہبتوں کی پوچشا کو دنیا سے نا بود کہ دے گا، یہ حقیقت محتاج بیان نہیں اور کوئی بدترین دشمن بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انجیل کا یہ اعلان کہ پیغمبر آخر الزمان ایسے حق کے ساتھ آئے گا جو تمام بیوں کے حق سے واضح تر ہو گا۔ یہ حقیقت بھی محتاج دلیل دبرہ ان نہیں کہ جو جامعیت تعلیمات نبویہ میں ہے اور جس منطقی اور عقلی انداز میں دلائل تو حید کو بیان کیا گیا ہے کتب سابقہ میں اس کی نظریہ ملنی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ پوری انجیل دیکھ لو اعمال شرع کا اس میں نام و نشان ملتا مشکل ہے اور تورات کے اسفار خمسہ میں بھی محدودے چند احکام موجود ہیں مگر قرآن مجید میں اور اس کی تفسیر نبوی یعنی احادیث میں مبدل و معاد اور معاش کے جملہ احکام مفصل طور پر بیان کر دیئے گئے ہیں۔

(۳) حضرت علیہ السلام کا یہ فرمان کہ رہسارے باپ دادا کے شہر کے برج

Click

خوشی کی وجہ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، حضرت علیؓ کے بعد سے لے کر آج تک سوائے پنجمیر حلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص اس کا مصدق نہیں ہو سکتا ہے۔ انھیں کے لیے کعبہ معتزلہ سجدہ ریز ہوا اور پھر ان کے مبارک قدم پڑنے کے بعد خوشی سے جھوم اٹھے اور قصہ کرنے لگے اور کیا جو شبِ معراج بیت المقدس میں قدم رنجہ فرمانے پر ہاں کس قدر فرحت و شادمانی کا اظہار کیا گیا ہوگا جبکہ تمام اپنیا کہاں نے اس مقدس خطہ میں قدم رنجا فرمایا تھا۔

(۵) حضرت علیؓ علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ جب یہ اقرار کیا جائے گا کہ میں بھی عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں تو میں پس کہتا ہوں کہ اللہ کا بھی اس وقت آئے گا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور قرآن مجید اس حقیقت کا جا بجا اعلان کرتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ہے۔ **مَا مَسِيحُهُ إِلَّا وَرَسُولٌ**، **قَدْ حَلَثُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ دَأْمَهُ صِدِّيقَةٌ**، کاتا یا مُلَادُ الْطَّعَامِ، مسیح بن مریم محسن اللہ کے رسول ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی ماں صدیقہ لختی وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، علیؓ علیہ السلام کا اپنا مہد والا کلام نقل کرتے ہوئے قائل ہیں **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أَتَلِنَّ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَّ مِنِّي نَبِيًّا**، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا، اور ان کے علاوہ بہت سے مقامات پر آپ کا تربی عنصر سے مخلوق ہونا وغیرہ بیان کر کے اس حقیقت کو پوری طرح واضح کر دیا ہے لہذا اس علامت کا مصدق بھی صرف اور صرف رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں والحمد

لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

— مگر تو مجھے سچا سمجھو کر بے شک ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنی

Click

رحمت اس وقت دوسرے... اپنے شہر کے اندر دے گا اور جب اس کے
لیے ہر جگہ میں حق کے ساتھ سجدہ کرنا ممکن ہو گا اور اللہ ہر جگہ میں اپنی رحمت سے
حقیقی نماز کو قبول کرے گا، عورت نے جواب دیا تحقیق ہم میا کے منتظر ہیں
پس جب وہ آئے گا ہمیں تعلیم دے گا لیوں نے جواب میں کہا اے عورت
کیا تو جانتی ہے کہ میا ضرور آئے گا اس نے جواب دیا اے سید، اس
وقت لیوں کا چہرہ چمک اٹھا اور اس نے کہا اے عورت مجھے دکھائی دیں ہے
کہ تو ایمان والی ہے پس تواب معلوم رکھ کہ تحقیق میا پر ہی ایمان لانے سے
اللہ کا ہر ایک برگزیدہ خلاصی پلے گا اس حالت میں یہ واجب ہے کہ تو میا
کی آمد کو جانے عورت نے کہا شاید تو ہی میا ہے اے سید لیوں نے جواب
دیا حق یہ ہے کہ میں ہی اسرائیل کے گھرانے کی طرف خلاص کا بسی بنا کر بھیجا
گیا ہوں لیکن میرے بعد حلبہ ہی میا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمام دنیا کے
لیے آئے گا وہ میا کہ اللہ نے اس کی وجہ سے دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس وقت
تمام دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا جائے گا اور رحمت حاصل کی جائے گی کی یہاں تک کہ
جولی کا سال جو اس وقت ہر سو برس پر آتا ہے میا اس کو ہر سال ہر ایک
جگہ میں بنادے گا۔

فصل ۸۲ - ص ۱۲۳، ۱۲۴

تبصرہ

اس عبارت میں چند امور قابل غور ہیں۔

(۱) عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی
رحمت دوسرے شہر میں منتقل کر دے گا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیت المقدس
جغرافیہ دراز سے انبیاء رضی اللہ عنہم السلام کا مسکن امر محل ظہور بنا ہوا تھا۔ اس
Click

کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے شہر کو ظہور نبوت اور نزول وحی کی سعادت سے بہرہ رکھے گا اور وہ سوائے مکہ مکہ مہ کے کونسا شہر ہو سکتا ہے اور سوائے رسولِ مغلظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کونسا نبی بیت المقدس کے علاوہ دوسرے شہریں ابن مریم کے بعد ظہور نپیر ہوا لہذا اس پیشینگوئی کا مصدقہ بھی صرف رسول مختصِ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

۱۲) ہر حجہ سجدہ کرنے کا امکان اور نماز کو قبول کرنے کا اعلان بھی ہوا تو صرف شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس سے قبل صرف مخصوص عبادت خانوں میں ہی نماز اور سجود قابل قبول ہوا کرتے تھے: "جَعَلْتُ لِي الْوَرْضَنَ مَسْجِدًا وَطَهْوَتَا" اسکا آپ نے اعلان فرمایا اس بشارت کا مصدقہ ہونا واضح کر دیا۔

۱۳) حضرت علیہ السلام خود اعتراف فرمارہے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھر ان کی طرف خلاص کا رسول بنایا کر بھیجا گیا ہوں اور اسی طرح انحصار متنی میں بھی آپ کی یہ تصریح ان الفاظ کے ساتھ مروم ہے: "میں اسرائیل کے گھر نے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا" رباب ۱۵-۲۲ اور رباب ۱۰، ۱۱، ۱۲) لہذا حضرت علیہ السلام کو تمام عالم کے لیے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو ان کی امت میں داخل ہونے کی ترغیب دینا حضرت علیہ کو جھبلانے کے متراوٹ ہے اور جب ان کو اللہ تعالیٰ تے دوسری کسی قوم کی طرف مسیوٹ فرمایا ہی نہیں تو کسی غیر اسرائیلی کا ان کی ملت اور امت میں داخل ہونا بھی قطعاً درست نہیں ہے، لہذا عیسائی مشینروں کی ساری تگ و دو اور عیسائیت پھیلانے کی سعی نکاہ میمع علیہ السلام میں قطعاً ناپسندیدہ ہے۔

۱۴) حضرت علیہ نے اپنے بعد آنے والی سہتی کے متعلق اعلان فرمایا کہ سب

عالم کا ہادی اور تمام اہل دنیا کی طرف میتوں رسول وہ ہو گا جو میرے بعد آئے،
گا، حواریوں کو تو خود آپ نے ہی دوسری قوموں کی طرف جانے اور تبلیغ کرنے
سے روک دیا ملا خطرہ ہو۔ انجیل متی باب ۱۰، ۵، ۸۔

غیر قوموں کی طرف نہ جاتا اور سامروں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسٹریل
کے کھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاتا اور چلتے چلتے منادی کرنا کہ
آسمان کی پاؤ شتا ہی نہ دیک آگئی ہے لہذا ان کو اس پیشینگ کوئی کام مصراط تو پنا
نہیں سکتے اور ان کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک اس شان کا
ماک سوائے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں آیا جن کے دین اور
ذمہ بہ نے سب ادیان پر غلپہ حاصل کر لیا اور شرق و غرب اور شمال و جنوب
تک پھیل گیا۔ لہذا یہ بھی صرف آپ کی ذات مقدسہ کے متعلق ہی حضرت عیسیٰ
علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔



Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول موعود کا

نسل اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا

ا۔ قسم ہے اللہ کی جان کی کہ بے شک ابراہیم نے اللہ ایسی محبت کی کہ اس نے جھوٹے بیوی کو چور چور ٹوڑ دینے اور اپنے باپ و مان کو چھوڑ دینے ہی پر کفایت نہیں کی بلکہ وہ اللہ کی فرمابندی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ کامنوں کے سردار نے جواب دیا میں تجھ سے محفوظ اسی بات کو پوچھتا ہوں اور تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا پس تو ہم کو بتا کہ یہ ابراہیم کا بیٹا کون تھا یسوع نے جواب دیا اے اللہ تیرے شرف کی غیرت مجھ کو بھڑکا دے اور میں جپا نہ ہو سکوں میں پسخ کہتا ہوں کہ ابراہیم کا یہ بیٹا ہی ہجس کی اولاد سے متیا کا آنا واجب ہے وہ متیا کہ اس کے ساتھ ابراہیم کو یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ اسی کے درود سے زمین کے تمام قبلیے پرکش پائیں گے۔ فصل ۲۰۸ ص ۲۸۹

۲۔ تب اس وقت یسوع نے کہا کہ جب رسول اللہ آئے گا تو وہ کس کی نسل سے ہو گا اتنا کروں دل نے جواب دیا داؤ دکی نسل سے تب یسوع نے جواب دیا تم اپنے آپ کو دھو کے میں نہ ڈالو کیونکہ داؤ اس کو روح میں یہ کہتے ہوئے رب کے نام سے پکارتا ہے اللہ نے میرے رب سے کہا تو میرے دلہنے جانب مبیٹھتا کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پا مال کرنے کی جگہ بناؤں تیرا

Click

رب تیرے نیزے کو بھیجے گا جو کہ تیرے دشمن کے وسط میں ندیہ والا ہو گا پس رسول اللہ جس کو تم میتا داؤ د کا بیٹا کہتے ہو یہی ہو گا تو پھر داؤ د اس کو رب کیونکر کہتا تھا تم مجھے سچا ما تو کیونکہ میں تم سے پس کہتا ہوں کہ تحقیق عہد اسماعیل کے ساتھ کیا کیا ہے نہ کہ اسحاق کے ساتھ۔ فصل ۲۳ ص ۶۹

۳ — اے ابراہیم عنقریب تمام دنیا جان لے گی کہ اللہ تجوہ سے کسی محبت کرتا ہے مگر دنیا کو تیری اللہ کے ساتھ محبت کیونکہ معلوم ہوتی ہے اسے تم پہ واجب ہے کہ تو خدا کی محبت کے لیے کچھ کرے ابراہیم نے جواب دیا یہ خدا کا بندہ مستعد ہے کہ جو خدا کا ارادہ ہو وہی کرے تب اس وقت اللہ نے ابراہیم سے کہا تو اپنے پہلو ٹھیے بیٹے اسماعیل کو لے اور پھر پرچھ جاتا کہ اس کو قربانی کے طور پر پیش کرے پس اسحاق کیونکہ پہلو ٹھا ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تھا اس وقت اسماعیل کی عمر سات سال کی تھی۔

فصل ۲۴ - ص ۶۹

۴ — موسیٰ نے کہا اے رب اسرائیل کے اللہ قادر رحیم تو اپنے بندے کو اپنی بندگی کی روشنی میں ظاہر کر کہ تو دمیں سے اللہ نے اس کو اپنے رسول کو اسماعیل کے دونوں بازوؤں پر دکھایا اور اسماعیل کو ابراہیم کے دونوں بازوؤں پر اور اسماعیل کے پاس اسحاق کھڑا ہوا اور اس کے بازوؤں پر ایک بچہ تھا جو کہ اپنی انگلی سے یہ کہتا ہوا رسول اللہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہی ہے وہ جس کے لیے اللہ نے ہر شئے کو پیدا کیا ہے تب دمیں سے موسیٰ خوشی کے ساتھ چلا یا کہ اے اسماعیل بے ننگ تیرے دونوں بازوؤں میں ساری دنیا اور خوبیت بھی ہے تو مجھے یاد کر کے میں اللہ کا بندہ ہوں تاکہ میں تیرے اس بیٹے کے سبب سے جس کے لیے اللہ نے ہر چیز بنائی

Click

ہے اللہ کی نظر میں کچھ نعمت پاؤں۔ فصل ۱۹۱ ص ۲۷

تبصرہ

ان حوالہ جات سے صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اور موعود بنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونے ضروری میں نہ کہ بنی اسرائیل سے اور تمام یہود و نصاریٰ ایک بنی کی آمد پر متفق تھے لیکن انہوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا صرف اس لیے انکار کیا تھا کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں تھے لیکن ان حوالہ جات نے اس وہم و گمان اور اس کی نیکیاد ہی اکھیر کر رکھ دی یا کہ تورات کے سفر استثناء کی یہ عبارت بھی اس وہم و گمان کو زخم دین سے اکھڑ دیتی ہے۔ ”میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک بنی بشر پا کر دوں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا“

استثناء باب ۱۸/۱۵-۱۸

اور بنی اسرائیل کے تمام قبائل جب آپ کے مخاطب تھے تو چران کے بھائی لا محالہ بنی اسماعیل ہی ہوں گے نہ خود بنی اسرائیل۔ اور جب عہد نامہ قدیم و جدید عیاٹی دنیا کے نزدیک مسلم و متفیر ہے تو پھر تورات کی تصدیق و تائید کے بعد انہیں بہ نیاس کے ان حوالہ جات میں پس و پیش اور شک و تردود کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟

بنی موعود حضرت علیہ السلام ہو ہی نہیں سکتے کہ

حضرت یسوع کا نسب نامہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جاملا ہے جبکہ

Click


جبکہ نبی موعود کے متعلق خود حضرت عیسیٰ کا یہ اعلان ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہو سکتے ملا خطہ ہوا نجیل متی باب ۳۲ - ۳۳ تا ۳۴

"جب فریضی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بٹیا ہے؟ المنو نے اس سے کہا داؤد کا، اس نے ان سے کہا پس داؤد روح کی برائی سے کیونکہ اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری داہمی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں؟ پس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بٹیا کیونکہ مطہر؟" یہی مضمون انجیل مرقس باب ۱۲ - ۳۶۔ اور انجیل لوتا باب ۲۱ - ۳۶ - ۳۷ پر مرقوم ہے لہذا تم ان انجیل کے اعتراف و اقرار کے بعد کہ آنے والا نبی نسل داؤد علیہ السلام سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنے بیٹے کو کوئی اپنا خداوند کیسے کہہ سکتا ہے اور داؤد علیہ السلام نے ان کو اپنا خداوند کہا ہے لہذا وہ نبی نسل داؤد علیہ السلام سے نہیں ہو سکتا اور حضرت یسوع ہی خود یہ دلیل دے کر اپنے انکار کو مدلل اور مبرہن انداز میں پیش فرماتے ہیں تو نسل داؤد علیہ السلام سے ہونے کے باوجود ان کو نبی موعود کیونکہ کہا جا سکتا ہے؟ لہذا ان انجیل شانث سے بھی یہ حقیقت عیاں داشکار ہو گئی کہ آنے والا نبی حضرت عیسیٰ نہیں اور نہ بنی اسرائیل سے ہو گا اور پربنیاس نے واضح کر دیا کہ وہ نبی اسماعیل سے ہو گا لہذا تورات ان انجیل شانث اور پربنیاس کی عبارات میں مکمل موافقت اور مطابقت پیدا ہو گئی اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی موعود اور رسول منتظر ہونا واضح ہو گیا۔ والحمد للہ علی ذاکر

نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو چیلنج کیوں نہ کیا گیا؟

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار اپنے متعلق یہ دعویٰ دہرا دیا کہ میں
ہی نبی موعود اور رسول منتظر ہوں اور تورات و انجیل میں میرے متعلق ہی خبر
اور بشارت دی گئی ہے تو اہل کتاب یہود و نصاریٰ نے جو کہ مدینیہ منورہ خیبر
اور نجران وغیرہ قریبی علاقوں میں موجود تھے اور ماہرین تورات و انجیل بھی تھے
اور عربی زبان پڑھی مکمل عبور رکھتے تھے اور قرآن مجید اور رسول عربی صلی اللہ علیہ
 وسلم کے دعاویٰ سے بھی پوری یا جبر تھے انہوں نے آپ کی صداقت کو چیلنج کیوں
نہ کیا اور آپ کے ساتھ مباحثہ و مناظرہ کی جرأت کیوں نہ کی، جس سے صاف
ظاہر ہے کہ ان کو انکار کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی اور اہل کتاب میں سے جو لوگ
شرف باسلام ہوئے مثلًا حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار و دیگر حضرت
ان کے سامنے ان کو اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی اس
لیے جنگ و جدال اور حرب وقتال سے کام لیا مگر محفوظ ربانی بحث و تحقیق اور مجادله
و مناظرہ سے گرفتار ہی کیا اور عملًا اپنی بے لبی کا اعتراف کر لیا۔

والحمد للہ علی ذالک



باقہ مصطفوی میں عسیٰ علیہ السلام کی نہایت واضح وانکھاری اور لعنتِ بُوئی کی بشارت

۱—— میں پنے آپ کو اس دینی برآخر الزمان (کاماند شمار نہیں کرتا جس کی نسبت تم کہہ رہے ہو کیونکہ میں اس کے لائق بھی نہیں کہ اس رسول کے چوتے کے بندیاً تعلیم کے تسمے کھولوں جس کو تم میسا کہتے ہو وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا۔ انحصار بر بُواس فصل ۲۲ ص ۶۶

۲—— تم مجھے سچا مانو ہر آئندیہ میں نے اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ عزت و حرمت کو پیش کیا ہے یعنی تعظیم کی ہے جیسے کہ اس کو ہر بُنی نے دیکھا ہے کیونکہ اللہ ان بیویوں کو اس رسول کی روح بطور پیشینگیوں کے عطا کرتا ہے اور جیکہ میں نے اس کو دیکھا میں تسلی سے بھر کر کہنے لگا کہ اے محمد اللہ تیرے ساتھ ہوا اور مجھ کو اس قابل بنائے کہ میں تیری جو قی کا تسمہ کھولوں کیونکہ اگر میں یہ شرف حاصل کر لوں تو بُنی اور اللہ کا قدوس ہو جاؤں گا اور جیکہ یسوع نے اس بات کو کہا اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔

فصل ۲۲ ص ۷۰۔ آیت ۲۸ تا ۳۲

۳—— با وجود اس کے کہ میں اس کی جو قی کا تسمہ کھولنے کا بھی مستحق نہیں ہوں میں نے اللہ کی طرف سے نعمت اور حرمت کے طور پر یہ رتبہ حاصل کیا

Click

ہے کہ اس کو دیکھیوں، فصل ۹ ص ۱۳۵

۳ — باقی رہا میرا خاص معاملہ سویں تحقیق اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ کے واسطے جواب جلد دینا کے لیے ایک خلاص اور حچکارے کا ذریعہ لے کر آئے گا راستہ صاف کر دوں۔ ص ۱۹۰

۵ — اس وقت یسوع نے کہا میں ایک آواز شور مچانے والی ہوں تمام یہودیہ میں جو کہ چیختی ہے کہ پروگار کے رسول کا راستہ درست کر دیجیا کہ اشیاء میں لکھا ہوا ہے۔ فصل ۲۲ ص ۶۵

تبصرہ

انجیل بریساں کی مندرجہ بالا عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے چھ پیغمبر کی بشارت دی ہے وہ آپ کے حواری نہیں ہو سکتے کیونکہ شاگردوں اور نائبوں کے متعلق اس قسم کے الفاظ اتوافع کے ذکر کرنا قطعاً ناموزوں اور نامناسب ہے اور نہ ہی ان سے روح القدس مراد ہو سکتے ہیں ایک تو اس لیے کہ یہاں وہی ہستی مراد ہو سکتی ہے جو جتنے اور نعلین استعمال کرے اور روح القدس اس سے منزہ و مبترا ہے علاوہ ازیں ان عبارات میں تبکرار ان کے رسول اللہ ہونے کی تصریح ہے اور روح القدس صرف اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر نازل ہوتا ہے نہ کہ عوام النّاس کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام رسائی ہوتا ہے نیز دوسری عبارت میں نام نامی اور اسم گرامی کی تصریح موجود ہے ”ایے محمد اللہ تیرے ساتھ ہو اور مجھے اس قابل بنائے کہ میں تیری جو قیامت کے کھولوں“ لہذا کسی بھی تاویل و توجیہہ اور اپنی پیچ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی اور یہ حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ آشکار ہو گئی کہ آپ کے


Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بعد آنے والی ہستی محمد رسول اللہ علیہ السلام ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے غظیم رسول کا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارگاہ میں اس قدر تواضع سے کام لینا اور ان کی خداداد عظمت کا اس اندازہ میں اعتراف کرنا ان کی رفتاروں اور اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے کی غظیم ولیل ہے کیونکہ نبی رانبی یہ ناسد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجرّمات کو سانسے رکھیں، ان کے متعلق عیسائیوں کے مبالغات کو سانسے رکھیں کہ کسی نے خدا کہا کسی نے خدا کا بیٹا اور پھر ان کی طرف سے خاتم الانبیاء والمرسلین کی قصیدہ خوانی اور درج سرافی کا یہ انداز دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بجز الوہیت جملہ مراتب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے اور اپنے خزانے کی ہر نعمت ان پر مکمل کر دی ہے۔

«فَلَمَّا دَعَاهُ الْحَمْدُ»



Click

حضرت صحیبؑ کا بارگاہ مصطفوی میں عجز اور آپ کی بشارت

یہی مضمون حضرت صحیبؓ (یو خا) بن زکریا علیہما السلام کی زبانی انجیل متی ص۹
پر اس طرح مرقوم ہے۔

— میں تم کو تو یہ کے لیے پانی سے بتپسمہ دیتا ہوں لیکن جو
میرے بعد آتی ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں الٹانے کے لائق
نہیں وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بتپسمہ دے گا اس کا چھا ج اس
کے ہاتھ میں ہو گا اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو
تو کھٹھیں جمع کرے گا مگر یہوسی کو اس آگ میں جلا دیں گا جو بھجنے کی نہیں۔

انجیل متی ص ۶

اور مرس کی انجیل میں یہ عبارت ہے۔

— حضرت یوحنار (صحیبؓ) علیہ السلام اونٹ کے بالوں کا باس پہنتا
چڑھے کا پسکا اپنی کمر سے باندھ رہتا۔ ڈڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا اور یہ
منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے میں
اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں، میں نے تم کو پانی سے
بتپسمہ دیا مگر وہ تم کو روح القدس سے بتپسمہ دے گا۔ انجیل مرس ص ۳۲

اور انجلیل لوقا ص ۵۵ میں اس مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔

۳۔— جب لوگ مستظر تھے اور سب پنے اپنے دل میں یو خناز حضرت مسیحی علیہ السلام، کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں تو یو خنانے ان سب سے جواب میں کہا میں تو تمھیں پانی سے بپسمہ دیتا ہوں مگر جو مجھے سے زوار ہے وہ آنے والا ہے میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں وہ تمھیں۔۔ روح القدس اور آگ سے بپسمہ دے گا اس کا چھانج اس کے ہاتھ میں ہو گاتا کہ وہ پنے کھلیاں کو خوب صاف کرے اور گئی ہوں کو اپنے کھتھ میں جمع کرے اور بھوسی کو اس آگ میں جلانے گا جو سمجھنے کی نہیں، اور اعمال ص ۱۲۲ پر یو مرقوم ہے۔

”جب یو خنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں وہ نہیں ہوں بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں،“

ف

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ لوگ ایک آنے والے پیغمبر کی انتظار میں تھے کیونکہ مختلف پیغمبران کرام نے ان کو اس قسم کی بشارت میں دی تھیں لیکن ان کو اس قسم کی بشارت میں دی تھیں لیکن ان کو ان بشارتوں کا مصداق حتمی طور پر معلوم نہیں تھا اس لیے حضرت مسیحی علیہ السلام کے متعلق یہ گمان کیا مگر انہوں نے اس کو رد کر کے فرمایا وہ تو میرے بعد آنے والے ہیں میں تو ان کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں مگر سوال ہے۔

یہ ہے کہ آیا اس بشارت کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جیسے کہ

Click

عیسائیوں کا خیال ہے؟ لیکن حقیقت حال اس سے باکھل مختلف ہے ز حضرت
یسیٰ علیہ السلام کو اس کا یقین تھا کہ میں یہ اعلان حضرت عیسیٰ کے متعلق کر رہا ہوں
اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حتیٰ اور قطعی انداز میں اس کا دوٹوک فیصلہ
دیا جب حضرت سیہی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی بابت سناتو
اپنے شاگرد بھیج کر یہ سوال کیا۔ یوختانے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بلا کر
خداوند عیسیٰ علیہ السلام اکے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ آیا آنے والا تو
ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ انھوں نے اس کے پاس آکر کہا یوختا پسہ
دینے والے ہمین تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم
دوسرے کی راہ دیکھیں۔ (انجیل و قاص ۵۹)

اور انجیل متی ص ۲۳ پر مرقوم ہے

”یوختانے قید خانہ میں میسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت
اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں،“ اور اسی
قید خانہ سے نکال کر آپ کو شہید کر دیا گیا تھا جیسے کہ اس انجیل متی کے ص ۱۸۰
پر موجود ہے۔ لہذا اس سے صاف ظاہر کہ آپ کو آخری دم تک یہ تسلی نہیں لختی
کہ جس کا میں نے اعلان کیا وہ یہی عیسیٰ این مریم ہیں بلکہ جب حضرت سیہی
علیہ السلام کی زندگی اختتام کو پہنچ چکی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور
ہو چکا تھا بلکہ ان کے کمالات کا چہرہ چا ان کے کانوں تک پہنچ چکا تھا پھر حصیخوں
نے یہ اعلان فرمائے کہ جس کا استطوار تھا آچکا ہے اس اعلان پر اکتفا
فرمایا: جو میرے بعد آنے والا ہے جو مجھے سے زور آور ہے اور میں اس کی
جو تیوں کا تسمہ کھولنے کی یقانت نہیں رکھتا، اب دیکھتے یہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے ان کے استفسار پر کیا فرمایا انجیل متی ص ۲۳ میں یہ جواب مرقوم ہے

Click

یوسع نے جواب میں ان سے کہا جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کہ یو خنا سے بیان کر دو کہ اندر حصے دیکھتے ہیں اور لنگر ٹرے پلٹتے پھرتے ہیں اور مردے زندہ کیسے جلتے ہیں اور عزیز بھول کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور مبارک وہ ہے جو میرے سبب سے ٹھوکرہ کھائے اور یہی جواب انجلیل لوقا ص ۶۰ پر مرقوم ہے اسی طرح انجلیل لوقا ص ۶۲ پر مرقوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے دریافت کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا یو خا بستپسہ دینے والا اور بعض ایسا کہتے ہیں اور بعض یہ کہ قدیم بیویوں میں سے کوئی نہیں جی اٹھا ہے اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو، پھر سنے جواب کہا "خدا کا مسیح! اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا اور کہا ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کا ہن اور فقیر ہے اسے رد کرے اور وہ قتل کیا جائے۔ ص ۶۲

اول:-

جب یہ امر لعنتی تھا تو پھر اپنے متعلق حقیقت حال کے انطہار سے روکنے میں تو کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا انطہار ضروری تھا کہ وہ مسیح میں ہی ہوں۔

کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیحیے پڑے تھے؟
اس بشارت میں حضرت مسیحی کا یہ اعتراف موجود ہے کہ جو میرے بعد آتا ہے میں اس کی جوئی کا تسمہ مکھونتے کے لائق نہیں ہوں جبکہ حضرت مسیحی سے خود حضرت عیسیٰ اسلام نے برکت حاصل کی تبضہ لیا۔ ملا حظہ ہوا انجلیل لوقا ص ۵۹ اور عربانیوں باب ۷۔ پر تصریح کر دی گئی ہے کہ اس میں

Click

کلام نہیں کہ جھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے ॥

- ۱- جب سب لوگوں نے بتپسہ لیا اور لیسونج بھی بتپسہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی تو میرا پیارا بیٹا ہے تجھے سے میں خوش ہوں۔ ص ۵۵
- ۲- اور ان دونوں ایسا ہوا کہ لیسونج نے گلیل کے ناصرہ سے آگئے یہ دن میں یوختا سے بتپسہ لیا اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند پسے اوپر اترتے دیکھا۔۔۔ انج ۳۲

انجیل مرقس ص ۳۲

- ۳- اس وقت لیسونج گلیل سے یہ دن کے کنارے یوختا کے پاس اس سے بتپسہ لینے آیا مگر یوختا یہ کہہ کر اس کو منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھے سے بتپسہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ لیسونج نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اور لیسونج بتپسہ لے کر فی الغور بانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔۔۔ انج۔ انجلیل میتی ص ۶
- ۴- اور میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوختا بتپسہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ میتی ص ۱۲

- ۵- جب یوختا کے قاصد چلے گئے تو لیسونج یوختا کے حق میں لوگوں سے کہنے لگا زماں تو پھر تم کیا دیکھتے گئے تھے ہی کیا ایک بی بی کو! ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ بی بی سے بڑے کویہ وہی ہے جس کی یادت لکھا ہے کہ دیکھیں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا میں تم

Click

سے کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یو خاب پتہ دینے والے
سے بڑا کوئی نہیں تو پھر عیسیٰ ابن مریم ان سے بڑا کیونکر ہو سکتا ہے اور جب
ان سے بڑا نہیں تو اس بشارت کا مصدقہ کیونکر ہو سکتا ہے؟
انجیل لو قاص ۴۰

آتیوالا پیغمبر داؤد علیہ السلام کی نسل نہیں ہوگا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہیں جیسے
کہ انجیل لو قاص ۵۵ پر تصریح کر دی گئی ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام
نے آنے والے عظیم پیغمبر کے متعلق خود فرمایا ہے کہ وہ نسل داؤد علیہ السلام
سے نہیں ہوں گے۔

۳۔ پھر یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ کہا کہ فقیہہ کیونکر کہتے
ہیں کہ مسیح داؤد کا بٹیا ہے، داؤد نے خود روح القدس کی ہدایت سے
کہا ہے مخداؤندتے میرے خداوند سے کہا میری داہنی طرف بیٹھ جب تک
میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو آپ اے
خداوند کہتا ہے پھر اس کا بٹیا کہاں بٹھرا۔

انجیل مرقس ص ۲۸، انجیل لو قاص ۵۷، انجیل متی ص ۲۸

کیا حواری روح القدس سے بتپسہ پانے والے تھے؟

حضرت صحیب علیہ السلام نے فرمایا میں پانی سے تمہیں بتپسہ دیتا ہوں اور جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس سے بتپسہ دے گا۔ اب بحکمہ پڑے کہ حضرت علیی علیہ السلام کے مخلص حواری بھی اس شرف سے مشرف تھے اور ان کے حق میں یہ اعزاز شناخت ہوتا ہے؟ انجیل لوقا ص ۱۷ پر حضرت علیی علیہ السلام سے رسولوں کی درخواست اور ان کا جواب ملاحظہ کرو تو اس رسول کا جواب خود ہی آجائے گا کہ قطعاً حواریوں میں یہ امتیاز و اختصاص نہیں تھا۔

۱ رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو ٹڑھا بخداوند نے کہا اگر تم میں رافیٰ کے دانے کے بر بھی ایمان ہوتا اور تم اس تو ت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا مگر تم میں ایسا کون ہے؟ انجیل لوقا ص ۱۷

۲ تواریخ باپیبل میں ڈاکٹر ڈبلیو جی، بلیکل صاحب حضرت علیی علیہ السلام کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۳ دوسرے دن سبتوں کا دن ہے مگر اس میں بھی شاگردوں کے لڑاکھڑاتے

Click

ایمان کو کچھ تقویت نہیں سمجھتی جب انہوں نے ساہو گا کہ ان کے پرانے ساتھی یہودا نے اپنے تیس بھائی دی ہے اجتنے میں روپے رشتہ لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکرٹ دایا تھا تو ایک ایک کا دل ہمیت سے بھر گیا ہوا گا لیکن دوسرے دن کی روشنی میں خداوند کی قبر خالی دکھانی دیتی ہے اور وہ اپنے رسولوں اور شاگردوں پر اسی دن کئی یار ظاہر ہوتا ہے گو اس نے اپنے جسی اٹھنے کی خبر پہلے دن تھی تاہم معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد اس واقعے کے متظر نہ تھے کیونکہ ان کا ایمان مکروہ تھا۔ (تواریخ باہمبل ص ۵۲۲)

آنکروز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخری لمحات کی تاکیدی خبر پر کہ میں میرے دن جسی اٹھوں گا، کامبھی لقیں نہ کیا اور زحمت انتظار برداشت نہ کی کیا روح القدس کا بیسمہ لیتے والے لیے ہو اکرتے ہیں؟

۳ — یسوع میح کے شاگرد پیپرس کے متعلق انجیل متی باب ۲۲، ۱۶ پر مرقوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے اپنا دکھ اٹھانا اور قتل کیا جانا بیان کیا تو، "اس پر پیپرس کو الگ لے جا کر ملاقات کرنے لگا کہ اے خداوند خدا نہ کرے یہ تجوہ پر ہرگز نہیں آنے کا، اس نے بھر کر پیپرس سے کہا۔ اے شیطان میرے سلف سے دور ہو تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے،" کہیے جناب جو اپنے نبی بلکہ خداوند کو ملاقات کرے اور اس کا نبی بلکہ خداوند اس کو شیطان کے لقب سے نوازے اور اپنی یارگاہ سے دور کر دے ایسا شخص کس اہلیت کی بدولت روح القدس سے بیسمہ یا فتحہ تسلیم کیا جا سکتا ہے؟

۴ — مقدس رسول کے متعلق یہی ڈاکٹر صاحب تواریخ باہمبل کے ص ۵۷ پر رقم طراز ہیں۔

"اک جگہ (مپفو علیہ السلام) مقدس جواب تک ان کے ساتھ تھا یہ دشلم کو

Click

چلا گیا شاید اس لیے کہ جب اس نے دیکھا کہ پو لوں اور بُر بُناس مپلائی کے جنگلوں
اور صحراؤں میں گھستا چاہتے ہیں تو وہ ڈر گیا اور ضعف ایمان کے سبب واپس
چلا گیا ۔

جب رسول کا ایمان ہی ضعیف ہے اور فرض تبلیغ حضرت مسیح کی تاکید
در تاکید کے باوجود اداکرنے سے قاصر ہے تو دوسروں کا حال کیا ہو گا ؟

— قیاس کن ز گلتان من بہار مرا

۵ — تواریخ بائیبل ص ۳۵۵ پر پو لوں کی تعلیم کو درست اور
وزنی قرار دیتے ہوئے اور پطرس رسول کی راستبازی کے معیار میں لغزش
کھانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ۔ یہ تعلیم شاید پو لوں رسول کی تصنیف میں
الیٰ توضیح و توسعہ کے ساتھ بیان نہ کی جاتی اگر یہودی خالات کے استاد
”نادان گلیتوں“ کو اپنی جادو بھری باتوں سے بہکانے کو سریانہ ہوتے۔ بلکہ
ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر مقدس پطرس لغزش نہ کھاتا تو شاید یہ تعلیم الیٰ وضاحت
کے ساتھ بیان نہ کی جاتی، کو یا مقدس پطرس بھی یہودیوں کا ہمنوا ہو گیا اور اس
غلطی کا مرتكب بھٹھرا اور یہودا اسکریوٹی کا یہودیوں سے گٹھ جوڑا اور اپنے رسول
کو سولی دلانا تو کون بھول سکتا ہے ؟

۶ — یہی ڈاکٹر صاحب اسی تواریخ بائیبل کے ص ۳۹۵ پر
پو لوں اور بُر بُناس کی ایلینحدگی کا سبب بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

کچھ عرصہ انطاکیہ میں قیام کرنے کے بعد پو لوں نے بُر بُناس سے کہا کہ ہم
پھر دورہ کریں اور جن کلیساوں کو ہم نے قائم کیا ہے انھیں دیکھیں اور پیروط
کریں۔ لیکن اس موقع پر ان کے درمیان نااتفاقی سی ہو گی اور وجہ اس کی
یہ ہوئی کہ بُر بُناس اپنے بھائیے مرقس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن

پولوس اس پر پورا پورا تکیہ نہ کرتا تھا کیونکہ پہلے سفر میں پغولیہ میں اس نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس نااتفاقی کا تیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں مشینریوں نے جدا جد اراستہ اختیار کیا۔ بہنbas اور مرقس کپرس کو چلے گئے اور پولوس سیلاس کو اپنے ساتھ لے کر ایشائے کو چک میں وردوڑک گھومتا پھر تارہا۔ نوشتتوں میں یہی واقعات کا جوان بزرگوں کے نقش پیش کرتے ہیں درج کیا جانا انہیں بیان کی سچائی اور تاریخ کی صداقت کا پنجمہ ثبوت ہے۔ تواریخ باہمیل ص ۵۲۶
لیکن انہی تعالیٰ ص کا بیان اہل اسلام کے یہی اس حقیقت کا واضح برهان ہے کہ حضرت عیینی کا یہ فرمان سیدالہیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واضح اعلان ہے جن کے علماء نے یقین کامل کے ساتھ صحراوں اور بیابانوں کو گھوڑوں کے سہول سے روندوala اور دریاؤں سمندروں سے خشک راستے وصول کر لیے اور قیصر و کسری کے تاج و تخت کو روندوala یعنی روح القدس کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوئی اور اس حقیقت کا ناقابل تردید بیان ہے کہ حضرت عیینی علیہ السلام اور ان کے حواری اور شاگرد اور رسول اس کا مصدق نہیں ہیں۔



Click

کیا حضرت علیہ السلام نے کیہوں بھوسی میں امتیاز کیا اور بھوسی کو جلا دیا !!؟

حضرت سید علیہ السلام کی اس بشارت میں آنے والے میع کے متعلق فرمایا گیا ہے، "اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہو گا اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے کیہوں کو تو کھٹھے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلانے کا جو سمجھنے کی نہیں" ॥

اس عبارت پر غور کریں تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیوی زندگی میں ظاہر ہونے والی دہ علامات میں جو آنے والے پیغمبر کو ممتاز کرتی ہیں۔ لیکن حضرت علیہ السلام نے اپنے متعلقین میں ایسے کسی امتیاز کو ظاہر نہیں فرمایا اور مومن و منافق اور مخلص و ریاکار میں قطعاً امتیاز نہیں فرمایا بلکہ یہودا اسکریوٹی جیسا پرستخت اور منافق بھی حواریوں میں آخر دم تک شامل نظر آتا ہے اسی طرح مخالفین یہودا اور دیگر منکریں کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا تعریض نہیں فرمایا بلکہ خود ان کے ظلم و ستم کا خزانہ بن گئے اور رسولی پر چھڑھادیئے گئے اور آپ پر اس وقت از روئے کتاب مقدس ایسا اضطراب طاری تھا اور ایسی گھبراہٹ کہ "ایمی ایمی لما شجقتنی" جیسے کلمات زبان سے نکلنے لگے جو ایک عام مومن بھی آزمائش کے موقع پر استعمال

Click

کرے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیسے لعنتی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
(ملاحظہ ہوا نجیل متی ص ۳۳ و نجیل واقعیت ص ۵۰)

ذرا غور سے ان کلمات کو پڑھئے یہ سوال نہیں کہ کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا بلکہ کیوں پڑھ دیا جس کا مطلب واضح ہے کہ مجھے تو نے چھوڑ تو دیا ہے مگر اس کی وجہ تو تباہ کیا جس نبی کو خدا چھوڑ دے دہ نبی رہ سکتا ہے اور جس کا پنے خدا کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے وہ اس کے ہاں کسی مقام و مرتبہ پر فائز ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟

الغرض اس عبارت کا مصدقہ صرف نبی یا می فداہ اپنی واصحی ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اخلاقی و نقاۃ اور اسلام و کفر میں واضح حدبندی فرمادی اور جنگ کی آگ میں مخالفین کو جلا دیا اور اسی لہ سے جہنم میں داخل کر دیا جس طرح کہ ارشاد خداوندی ہے: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدْعُهُ مِنْ مُنْبِتٍ عَلَىٰ مَا أَنْشَمَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبْيَزَ الْخَيْثَيْثَ مِنَ الطَّيْبِ﴾۔ اللہ تعالیٰ کو بیہ ذریباً نہیں کہ تمہیں اس اختلاط والی حالت میں رکھے جس پر کہ تم اب ہو بلکہ وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ جنہیوں کو پاک لوگوں سے الگ کرے اور یوم بدر کو اسی لیے یوم فرقان سے تعبیر فرمایا کہ اس نے حق و باطل میں واضح فرق لمحی کیا اور کفر کی کمزوری کر رکھ دی۔

رمایہ شبہ کہ چھاج سے مراد شریعت ہے اور کھتنے سے مراد جنت اور نہ بھینے والی آگ دوزخ ہے لیکن یہ توجیہہ اس لیے غلط ہے کہ ایسا چھاج تو ہر پیغمبر کے ہاتھ میں تھا، حضرت علیہ السلام کی کیا خصیص؟ اور جس طرح جزا و مجزا میں دوسرے پیغمبر مستقل نہیں تھے حضرت علیہ السلام کی مستقل نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع۔ پھر اس چھاج سے دنیا میں لوگوں کو کیسے حتمی علم ہو سکتا ہے کہ آنے والا پیغمبر جس کی بشارت بلکہ تناہی حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد جلیلہما السلام کے زمانہ سے ہو رہے ہے۔

Click

جیقوق اور مسٹی علیہ السلام کی طرف سے بشارت،
قدوس کوہ قاران سے حلوہ گر ہوا۔

استثناء تورات باب ۳ ص ۲۰ پر موسیٰ علیہ السلام کا فرمان اس طرح منقول ہے مخداؤں دینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا وہ کوہ فاراں سے جلوہ گرد ہوا اور لاکھوں قدیموں میں آیا، اس کے دامنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت لختی وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا... الخ اور حقوق بندی کی دعا اس طرح منقول ہے۔ ملاحظہ ہو جیقوق باب ۲، ۳، ۴ ص ۲۰۰ لے خداوند اسی زمانہ میں اپنے کام کو بحال کر اسی زمانہ میں اس کو ظاہر فرمائیا یا نبی سے آیا اور قدوس کوہ فاراں سے اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی اس کی جگہ کا ہٹ نور کی مانند لختی اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہایت لختی، وبا اس کے آگے چلتی لختی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی اس نے نگاہ کی اور قومیں پر اگزدہ ہو گئیں۔ ازی پہاڑ پارہ پارہ ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازی میں۔ ص ۸۷۸ کوہ فاراں مکہ مکرمہ کا پہاڑ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید و رسالت فرمایا اور لوگوں کو آتشی شریعت دی جس نے ماننے

Click

والوں کو تو کندن بنایا اور مخالفین کو جسم کر دیا اور تیروں، تلواروں کے ذریعے قوموں کو پراگندہ کیا اور ارض فارس لرزائھی۔

بجکہ اس شریعت کے بعد عکس حضرت علیہ السلام کی شریعت کا نقشہ انجدیل سے ہی ملاحظہ کر سی۔ انجدیل متی ص ۸
 تم سن چکے کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور وانٹ کے بدلے دانت یا کن قم سے کہتا ہوں کہ شریک کا مقابلہ کرنا بلکہ جو کوئی تیر سے دہنے گاں پر طاپچہ مارے تو دوسرا چھپا اس کی طرف پھیرے لوگ کوئی تجھ پرہ نالش کر کے تیر کرنا لینا چاہیے تو چوغہ بھی اسے لے لینے دے اور جو کوئی تجھے ایک کوں بیکار میں لے جائے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔

یہ اس تعلیم کو آتشی شریعت کہا جا سکتا ہے اور اس نبی کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے قدموں سے آتشی تیر نکلے لختے اور زمین اس کے کھڑے ہونے سے مختراکتی علاوہ ازیں اس میں ہنسنی مرکز رشد و پرداخت کو الگ الگ بیان کر دیا گیا۔ سینا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز کلمی عطا ہوا اور توریت جسی عظیم کتاب اور کوہ شیعر جہاں سے حضرت علیہ السلام کا سلسلہ رشد و پرداخت شروع ہوا اور کوہ فارس جہاں سے قرآن کریم جسی ابدی کتاب کا ظہور ہوا اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی شریعت، لہذا کسی التباس و استبیاه کی اس امور میں کنجماش ہی نہیں کہ حضرت مجھی کے فرمان کا مصدق بھی صرف اور صرف خاتم الاممیا مصлی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ کی اس بشارت اور حقوق پیغیر کے اس روایہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل کا فاران کے علاقہ میں ہونا عہدہ قدیم پیدائش کے ص ۲۰ کی اس آیت سے واضح ہے، خدا اس

Click

دنیا کا سردار آتا ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو ایک عظیم ہستی کے رونما ہرنے اور دنیا پر قدم رنجہ فرمانے کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا:

۱ — میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمھیں دوسرا مددگار بخشنے گا کہ اب تک تمھارے ساتھ ہے۔ (انجیل یوحنا ص ۹۹)

۲ — اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ ص ۹۹

۳ — لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمھارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی مے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔

(انجیل یوحنا ص ۱۰۰)

۴ — لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمھارے لیے... فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمھارے پاس نہیں آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اس کو تمھارے پاس بسچ دوں گا اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا۔ ص ۱۱۱

۵ — مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں مگر اب تم ان کی

لڑکے کے ساتھ تھا وہ بڑا ہوا اور بیباں میں رہنے لگا اور تیر انداز بنा اور
وہ فاران کے بیباں میں رہتا تھا لہذا اس بشارت کا مصدقہ صرف اور
صرف رسول مغلیم علیہ السلام میں جو منظہر ذات و صفات خداوند ہو کہ
ناران سے جلوہ گر ہرے ۔ دالمحبر للہ




http://t.me/Tehqiqat

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھلے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تھیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

ان پانچ عبارات کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس امر کے معتبر پیش کر میرے بعد دنیا کا سردار آتا ہے اور میرے اندر ان کے کمالات و خصائص میں سے کوئی کمال اور خصوصیت موجود نہیں ہے اور وہ جو کچھ فرمائیں گے زیان اگرچہ ان کی ہوگی مگر کلام ان کا نہیں ہوگا (وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوْنِيِّ إِنْ هُوَ إِلَّا دَحْتَنِيَّ تَوْحِيْ) اور وہ مجیس غیب کی خبریں تبلائیں گے (وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِلَطْنِيِّ) لہذا حضرت سعیدی علیہ السلام کی اس بشارت کا حقیقی... مصدق بھی سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں تاکہ ذو نوں سعید بن کرام کی بشارت میں توانق و اتحاد پیدا ہو جائے اور کوئی ایک دوسرے کی تکذیب کا موجب نہ ہو،۔



عیسیٰ یوں کی تاویل اور اس کا رد

رہ گئی پادری صاحبان کی یہ توجیہ ہے کہ یہاں روح القدس کے آنے کی بشارت ہے نہ کہ کسی دوسرے پہنچیر کی لعنتی اس کا حواریوں پر نزول ہو گا اور وہ اپنی طرف سے نہ کلام کرے گا بلکہ جو شے گا کہے گا وغیرہ وغیرہ۔ مگر ہم پوچھتے ہیں — کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہے اس وقت تک جب تک ایمن اور روح القدس نے زمین پر قدم نہیں رکھا تھا۔

۲ — کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل لمحے اور ان کا کوئی کمال آپ میں موجود نہیں تھا جن کو اللہ تعالیٰ سے متعدد مانا جاتا ہے اور جو تسلیث فی الوحدۃ کے عقیدہ کی روح اور جان ہیں ان سے روح القدس مرتباً میں زائد کیونکر ہو سکتے ہیں۔

۳ — روح القدس کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہ ہوا اور حواریوں پر ہو کیونکہ آپ فرماتے ہیں میرے بعد آتی ہے اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا تو اس سے حواریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہونا لازم آئے گا۔

۴ — حضرت عیسیٰ کو غیر کو وہ نہیں معلوم نہ ہوا روح القدس

حوالیوں کو تبلائیں تو علمی لحاظ سے روح القدس اور حواری سبقت لے گئے حالانکہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کا عنصر علم مستقل ہوا تھا جس سے ابن اللہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا تو پھر جبرائیل کے علم کا ان میں نہ ہوتا کیونکہ متصور ہو سکتا ہے اور حوالیوں کو روح القدس کی طرف سے وہ علوم کیونکہ القادر کیے جاسکتے ہیں جو ان کے بنی درسول میں نہیں تھے بنی کی امت پر اصل فوقيت علم کے اعتبار سے ہوتی ہے جب وہ بھی نہ رہی تو حضرت علیہ السلام کو کیونکہ افضل کہہ سکیں گے اور جب ان کے حواری ان سے افضل ہو گئے تو حضرت سیدنا پغمبر کا یہ کہنا کیونکہ درست ہو گا کہ میں علیہ بن مریم کی جو تیوں کا تسمہ کھولنے کی یاقت نہیں رکھتا۔

۵۔۔۔ نیز حضرت سیدنا علیہ السلام کے متعلق انجیل و قاصہ پر تصریح موجود ہے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہو گا اور ہرگز مٹنے کوئی اور شراب پئے گا اور اپنی ماں کے بطن سے ہی روح القدس سے بھر جائے گا.... انہیں

جب آپ بچپن سے اس شان کے مالک تھے تو دنیا کے سردار کیوں نہ بنے اور ان صفات کے ساتھ موصوف کیوں نہ ہوئے جن کے متعلق حضرت عیسیٰ آنے والی ہستی کو موصوف تبلائی ہے تھے اور حوالیوں کو جو شرف حاصل ہو گیا وہ آپ کو کیونکہ حاصل نہ ہو سکا لہذا یہ توجیہ لغو ہے اوزنا قابل قبول۔

۶۔۔۔ علاوہ ازیں آپ فرماتے ہیں دنیا کا سردار آتا ہے اور دنیا کا سردار وہی ہو گا جو اس دنیا میں ظہور پذیر ہو اور دنیا کی مخلوق اس کو دیکھے

اور اس کا کلام اس کے احکام نے جو صرف حواریوں کو دکھائی دے اور انہیں کو وحی والہام کرے وہ دنیا کا سردار کیسے کہلائے گا وہ نہ دنیا کا خالق نہ اس کا ماں ک نہ اس میں مستمر پھر سردار ہونے کا کیا معنی ہے؟

نیز اگر روح حق اور روح القدس دنیا کا سردار تھا اور کمالات علیسوی کو اس کے کمالات سے کوئی نسبت نہیں تھی تو حواریوں اور رسولوں کو فیضِ روح القدس حاصل کرنے کے بعد اس کی عظمت ظاہر کرنی چاہیے تھی مگر انہوں نے جو کمال اور معجزہ و خرق عادت دکھلایا اس کی نسبت حضرت علیہی کی طرف کی مثلاً پطرس کا جنم کے نگارے کو درست کرنا اعمال باب ۳ پر مذکور ہے، مگر اس نے درست کرتے وقت جو کلمات ہے وہ یہ ہیں سیع ناصری کے نام سے چل پھر اسرائیلیوں کے سامنے جب اس نے تقریب کی تو اس نے یوں کہا۔ (ابراهیم اور اصحاق اور یعقوب کے خدا یعنی ہمارے باپ داؤد کے خدام نے پسے خادم سیع کو جلال دیا رہتا) اسی کے نام نے اس ایمان کے دشیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مقبول کیا جے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔

اسی طرح اعمال باب ۳ میں سرداروں، کامنوں اور فقیہوں کی مجلسیں میراث علم کے اندر پطرس نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ تو اس نے کہا۔ امت کے سردار اور بزرگوں آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ وہ کیونکرا چھا ہو گیا تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کر لبیس عیسیٰ ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں سے جلایا اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے نظرست کھڑا ہے۔ لاحظہ ہو اعمال ص۱۱

Click

اسی طرح جب حواریوں اور علیینی علیہ السلام کے رسولوں کے خلاف امریکیوں کا ہنوں اور سرداروں نے تشدید شروع کیا تو انہوں نے جو اجتماعی دعا کی اس کے اتفاق اٹھی سنتے جائیے: اعمال باب ۲۹،

”اب اے خداوندان کی دھمکیوں کو دیکھا اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کر وہ نیرا کلام کمال دلیری کے ساتھ سنائیں اور تو اپنا ہاتھ شفادیتے کو بڑھا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزے اور عجیب کام طہرور میں آئیں“
 الغرض ہر مقام پر رسولوں نے عجیب کاموں کی نسبت یسوع علیہ السلام کے نام کی طرف کی ہے جس سے صاف ظاہر کہ ان کے تمام کمالات اور معجزات وغیرہ اسی نام کا صدقہ تھے اور یہی نام ان کے لیے بنزرتے کلمہ کن کے تھا تو پھر دنیا کا وہ سردار جو حضرت یسوع سے بھی افضل اور بالاتر تھا اس نے کیا کیا اور کوتسا کمال ظاہر کیا۔ نہ براہ راست اس کا کوئی کمال کسی نے دیکھا اور نہ ان رسولوں نے اس کا مظہر ہون کر کہا کہ ہمارا یہ کمال دراصل روح القدس کا کمال ہے جس طرح رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پدروختین میں کنکریوں کی مٹھی کفار کی طرف پھینکی اور وہ پدھو اس ہو کر بھاگے مگر قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ فعل ان کا پنی ذاتی چیزیت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا مظہر ہونے کی چیزیت ہے۔ ”وَمَا أَرَمَيْتَ إِذْ نَأْمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ هُرَمَى“، لہذا رسولوں کا یہ طرز عمل اور یہ تعلیم اس امر کی شاہد ہے کہ عیینی علیہ السلام کے ان ارشادات میں روح القدس معنی جبریل کی خبر نہیں بلکہ جبریل کے بھی مخدوم و مولیٰ اور سید الامم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشخبری ہے
 ————— نیز اگر روح القدس کے نزول کی خبر دینا مقصود ہوتی تو اس طرح کیوں فرماتے کہ میں باپ سے درخواست کرہوں گا تو وہ تھیں دوسرا

مدودگار بختے گا، جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا کیونکہ دوسرا مدودگار وہی کہہلا سکتا ہے جو علیہ اسلام کی طرح ہو کہ پہلے وہ مدودگار تھے اب جلتے جاتے دوسرے کا انتظام فرمائے لیکن روح القدس تو ان پر بھی نازل ہوتا رہا اور ان کے واسطے سے حواریوں اور رسولوں کی بھی تو جو پہلے سے ان کا مدودگار تھا اس کو دوسرا مدودگار کہنا کیونکہ درست ہو سکتا ہے؟ اور صرف حواریوں کے لیے نہیں بلکہ پہلے تمام پیغمبران کے لیے روح القدس کی یہ امداد جاری رہی اور یہی جیسے کہ پطرس رسول نے حواریوں اور رسولوں کے نزول روح القدس سے مخصوصی والا ہوشی کی حالت میں ہو جانے اور لوگوں کے ان کو شہ سے چور سمجھتے کی وجہ سے پکھا کر کہا بات اس طرح نہیں جو تم سمجھتے ہو بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوں سلسلہ کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہو گا کہ میں اپنی روح میں سے بشری ڈالوں کا اور تمہارے پیشے اور تمہاری بیٹیاں بہوت کریں گی اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے ٹھہرے خواب دیکھیں گے بلکہ میں لپے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں اپنی روح میں سے ڈالوں کا اور وہ بہوت کریں گی (اعمال باب ۱۸، ۱۹، ۲۰)۔ تو یہ مدودگار ایک ہی ہے جو ہر دو میں ہر پیغمبر کے ساتھ رہا ہے لہذا اس کو دوسرا مدودگار کہتا بھی غلط اور مجھے میں اس کا کچھ نہیں کہنا بھی قطعاً غلط ہو گا بلکہ یہ عبارات اسی صورت میں درست ہو سکتی ہیں جبکہ ایک عظیم الشان پیغمبر کے تشریف لانے کی خبر دی جا رہی ہو۔

— ۹ —
بیان کیا گیا ہے جب حواری اور رسول آپ ابھی نہیں تھے تو وہ مدودگار اب تک ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا تھا اس سے صاف ظاہر کہ مراد صرف حواری اور

Click

رسول علیہ السلام نہ تھے بلکہ پوری امت اور نسل انسانی مراحتی اور اسی عبارت میں آنے والے رسول کی ابدیت رسالت اور دوام شریعت اور ناقابل نسخ تعلیم کا بیان ہے اور یہ بات صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی نبوت و رسالت پر ہی صادق آتی ہے۔

۱۰۔ نشانہ غلطی

عیاں براوری کو غلطی بیان سے لگتی ہے کہ کلام علیہ السلام میں چونکہ آنے والی سستی کو روح الحق سے تعبیر کیا گیا ہے لہذا اس سے مراحتی انسان اور بشر کیونکہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نبیا و بالکل ضعیف اور ناقابل اعتذار ہے کیونکہ۔

- (۱) جب حضرت علیہ السلام کو انسان بشر اور ابن مریم مانتے کے باوجود دروح اللہ تسلیم کرتے ہیں تو سرو رعالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اور بشری حالت میں ہوتے ہوئے روح حق کیوں نہیں کہلا سکتے بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جب روحانیت کا غلبہ ہوا اور بشری تقاضے مغلوب بلکہ کا عدم ہو جائیں تو بشر کو روح کہنا بالکل درست ہوتا ہے اسی وجہ سے حضرت علیہ السلام روح اللہ کہلائے اور پیغمبر آخر الزمان علیہ السلام بھی روح حق کہلائے
- (۲) نیز حیات ابدان کا دار و مدار روح پر ہوتا ہے اور حیات قلوب اور ارواح کا دار و مدار تعلیمات نبوت و رسالت پر لہذا پیغمبر نسل انسانی کے بیے بنزٹہ روح کے ہوا جوان کو روحانی اور قلبی حیات سے مشرف کرتا ہے بلکہ بدی اور غیر فانی حیات سے بھرہ ور کرتا ہے اور چونکہ پیغمبر آخر الزمان کی تعلیم ابدی ہی اور جامع ترین اور سب شرائع سے اکمل شریعت آپ کی تھی

Click

تو آپ روح الحق قرار پائے۔ والحمد لله علی ذلک

(۳) علاوہ ازیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس اور آپ کے نور انوار کا تمام مخلوق سے سامنہ ہزار سال پہلے پیدا کیا جاتا ثابت ہے جیسے کہ انجیل بریس اس سے اس کے حوالے پیش کیے جائیں گے اور اہل اسلام کے نزدیک بھی کتاب و سنت کی روشنی میں یہ حقیقت مسلم ہے لہذا اس امتیازی شان کو محفوظ رکھتے ہوئے اور اس سبقت خلق و ایجاد کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کو روح حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بشارت کا مصداق نہ بنانا با لکل غلط ہے اور ناقابل اتفاق و اعتبار۔

لہذا یہ حقیقت اظہر من الشم ہے کہ دنیا کا سردار حبی کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چنہوں نے زمین میں خدا تعالیٰ کے دین اور اس کی الوبہتیت کا اعلان کر کے اور جہاد کے ذریعے مخالفین کا صفا بیا کر کے حکومت قائم فرمائی اور اس کے علماؤں نے قیصر و کسری کے تخت الٹ کر ان کے دین کو مشرق و غرب اور شمال و جنوب تک پہنچایا اور اسلام کی عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی جس میں چودہ سو سال سے منبروں اور میماروں پر اشہدان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور اعمی ہونے کی وجہ سے محض تعلیم الہی سے کلام فرمایا اور ایسے غیوب بیان فرمائے جو پہلی کسی آسمانی کتاب میں نہیں اور نہ کسی نبی نے اپنی امت پر ان کا اکٹھاف کیا اور جملہ کمالات میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پنجیہ ان کرام سے ممتاز و منفرد ہیں۔ والحمد لله علی ذلک

— انجلیل یوحنائے نقل کردہ چوتھی عبارت میں اس طرح کہا

Click

گیا ہے وہ آکر دنیا کو گناہ اور راستبازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار
ٹھہرائے گا اور عربی انجیل مطبوعہ لندن آکسفورڈ ۱۸۷۸ء میں یہ الفاظ ہیں
”و متى جاء ذلك يبيكت العالم على خطيئة وعلى بزر على دنيونه“
الخ سادس عشر ص ۱۸۷۸ء

یعنی جب وہ روح حق آئے گا تو سارے عالم کو سرزنش کرے گا گناہ
اور نیکی اور راستبازی پر اور تیکیت و توبیخ ہم معنی ہیں اور قصور وار
ٹھہرائے کا مطلب ہے تاریخی کارروائی کیونکہ عند اللہ مجرم ہونا تو ہر عالم و مبلغ
بیان کر سکتا ہے یہ کوئی امتیازی خصوصیت نہیں ہے۔ امتیازی خصوصیت
ہے تو عمل اشریف کو نافذ کرنا اور غلاف ورزی پر مزادینا اور یہ خصوصیت
نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تھی اور نہ ہی ان کے حواریوں میں بلکہ ان کا
دائرہ کا رصرف تبلیغ اور زبانی و عظاو نصیحت تک محدود تھا، عیسیٰ علیہ السلام
کا اپنا فرمان انجیل یوحننا باب ۱۲-۷ پر ملاحظہ فرمائیں۔

اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہرائتا
کیونکہ میں نیا کو مجرم ٹھہرائے نہیں آیا بلکہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔
جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرائے
والا ہے یعنی جو کلام میں نے کی آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا کیونکہ میں
نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھے حکم دیا
ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں» انتہی

اور حواری درسل بھی صرف تبلیغی دورے کرتے رہے نہ ان کی حکومت قائم
ہوئی اور نہ حدود و تعزیرات کا نظام احفوں نے قائم کیا بلکہ لوگوں کو گناہ سے
بے خوف اور مُذر بنانے کے لیے کفارہ کا عقیدہ کھڑا بیا کہ حضرت عیسیٰ ہمارے

گناہوں کا کفارہ پینٹے کے لیے سولی پر چڑھتے سے لہذا گناہوں سے گھرانے کی ضرورت
ہی نہیں تو ایسی صورت میں یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر چاہرہ نہیں کہ ان بشارات
کا مصدق نہ جواری و رسول ہیں نہ ان پر اترنے والا روح القدس بلکہ وہ پنځیر
جس نے حدود و تعزیرات کا نظام نافذ کیا اور گناہوں کا قوت و طاقت سے
سد باب کیا اور وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔



کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا علیہ السلام

کے بعد آئے

حضرت سیدنا (یوحنا) کی بشارت میں ہے جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آرہے اور میں اس کی جو تیوں کے لئے مکونے کے لاٹق نہیں مگر جب ہم تاریخ پیدائش کو دیکھتے ہیں تو بعد آنے کا تخیل ناقابل قبول ہٹھڑتا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف چھ ماہ بعد اس دنیا پر قدم رنجہ فرماء ہو جاتے ہیں صرف اس فرق کے پیش نظر ان کا اپنی نبووت کے سارے زمانہ میں سیبی کہتے رہنا جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آرہے۔ ناقابل فہم اور ناقابل تسلیم بات ہے۔ حالہ ملاحظہ ہو۔

تواریخ بائیبل میں ڈاکٹر بلیک صاحب نے "یوحنا کی پیدائش کی خبر" اور "یسوع کی پیدائش کی خبر" یہ دو عنوان قائم کیے اور لکھا مدد اس فرشتے (جبراہیل) نے ذکر بیا کو خبر دی کہ تیرے یہاں ایک لڑکا پیدا ہو گا، "چھ مہینے گزر جلتے ہیں اور وہی فرشتہ جو حضرت ذکر بیا کو دکھانی دیتا تھا پھر اسی قسم کی انسجام دہی کے لیے ایک شمالی شہر کی طرف بھیجا جاتا ہے ایک دور دراز شہر میں جس کا نام ناصرت ہے اور جبلیل کے پہاڑوں سے چھپا ہوا ہے ایک عبرانی غاؤں مریم رہتی ہے (متا)، اسی خالتوں کے پاس فرشتہ آتا ہے اور

Click


<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ایسے ایسے الفاظ میں سلام کرتا ہے جن سے اس کی زندگی کی عظیم فضیلت ظاہر ہوتی ہے لیکن یہ غریب عورت ڈر جاتی ہے، کیا اس اعلان کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے خاندان کی قدیم عزت اور مرتبہ پہنچال کی جائے گی؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کا نام یسوع ہو گا۔ ص ۳۸۲ -

آئیے اس ضمن میں انجیل لوقا کا مطالعہ بھی کرتے چلیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔

”فرشته نے اس سے کہا لے ذکر یا! خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے۔ اور تیرے یہ تیری بیوی ایشیع سے بیٹا پیدا ہو گا تو اس کا نام یوحنار کھنا اور تجھے خوشی و خرمی حاصل ہو گی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہو گا اور ہرگز نہ مے نہ کوئی اور شراب پینے کا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ (تنا) ان دنوں کے بعد اس کی بیوی ایشیع ماملہ ہوئی اور اس نے پانچ مہینے تک اپنے تین یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب خداوند نے میری رسائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں اس نے میرے لیے ایسا کیا، چھٹے مہینے میں جبریل فرشته خدا کی طرف سے گھیل کے ایک شہر میں جس کا نام نا صرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا (تنا) فرشته نے اس سے کہا، لے مریم! خوف نہ کر۔ کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو ماملہ ہو گی اور تیرے بیٹا ہو گا۔ اس کا نام یسوع رکھنا۔ (تنا) اور دیکھ تیری رشتہ دار ایشیع کے بھی بڑھا پے میں بیٹا ہونے والا ہے۔ اور اب اس کو جو بانجھ کھلاتی تھی، چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں ہو گا۔

اس طویل افتباں سے یہ حقیقت کھل کر سلمانے آگئی کہ ان دونوں حضرات میں
صرف چھ ماہ کا فرق ہے اور اس قبیل فقیہ کے ہوتے ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا
تمام تبلیغی عرصہ میں یہی اعلان کرتے رہتا کہ جو یہرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور
ہے وغیرہ وغیرہ، ناقابل فہم ہے۔



http://t.me/Tehqiqat

کیا حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی مقام سے بے خبر تھے؟

اس قسم کا اعلان اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ حتیٰ اور قطعی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ نبی موعودؑ یہی یہی کوئی اور۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب بشارت فینے والا میتھا پہچان کے کہ جس کی بشارت میں دیتا ہوں وہ کون ہے اور موجود ہو چکا ہے یا نہیں ؟ تو دوسروں کو کیا پہچان ہو سکتی ہے اور ذاتی صورت میں بشارت فینے اور دلا نے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم آپ کو انجیل لوقا کے موالے سے ہی بتلاتے ہیں کہ حضرت یحییٰ والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے پہچانتے بھے بھکر دے جاتے ہیں ابھی ابھی حضرت مریم کے لطف اقدس میں تھے۔ (انجیل لوقا، ص ۵۲ کی عبارت ملاحظہ ہو)

” ان ہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہوداہ کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشیع کو سلام کیا اور جونہی الشیع نے مریم کا سلام سناتوا بیساہوا کہ سچے اس کے رحم میں اچھل پڑا اور الشیع روح القدس سے بھر گئی۔ اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خدادنگی مال میرے پاس آئی۔ یکوئی نیک دیکھے، جو نہیں تیرے سلام کی آدمی کان میں پہنچی، سچے ماںے خوشی کے

Click

میرے رحم میں اچھل پڑا۔“

جب بطن مادر میں ہوتے ہوئے ان کا مرتبہ و مقام معلوم کر لیا اور ان کی آمد پر خوشی اور سرت سے رحم مادر میں اچھل ہے تھے اور الشیع کو بھی معلوم ہو گیا کہ مریم کے بطن اقدس والا کس ندر مقدس ہے تو پھر آخر عمر تک ایسے مبہم اعلان کا کیا مطلب؟ بلکہ حضرت عینی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ اعلان کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے۔ گویا ان کے ان صفات کا حامل ہونے کا انکار ہے اور لوگوں کو ان کے متعدد معاملہ دینے کے متزاد ہے اگر وہ واضح طور پر یہ اعلان کرتے رہتے کہ ان صفات کے حامل حضرت عینی ابن مریم ہیں تو لوگوں کو صحیح صورت حال سمجھ میں آ جاتی اور گمراہی سے پُچ جاتے اور بہ حوالہ پہلے گزر جکتا ہے کہ حضرت عینی نے جمل میں ہوتے ہوئے جہاں سے ان کو چند روز کے بعد نکال کر شہید کر دیا گیا تھا، اپنے خادموں کے ذریعہ حضرت عینی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں۔

(انجیل لوقا ص ۹۵ اور انجیل متی ص ۱۲)



Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کیا حضرت مسیحی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو

اس بشارت کا مصدق سمجھا؟

ہو سکتا ہے کوئی پادری صاحب انجیل پوختا کا حوالہ پیش کر کے مغالطہ دیں، کہ حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آنے والے پیغمبر ہی ہے۔

”یہ وہی ہے جس کی بایت میں نے کہا تھا کہ ایک شفیع میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانت نہ تھا مگر اس لیے پانی سے پیسمہ دیتا آیا ہوں کہ دوسرے امراء میں پڑھا ہو جائے“
الغ - (انجیل پوختا - ص ۸۷)

لیکن سوال یہ ہے کہ بہچان نہیں تھی تو شکم مادری ہوتے ہوئے ان کے لیے اپھلنے اور قص دوجد کا کیا معنی؟ اور اگر بہچانتے تھے تو پھر صرف چھ ماہ بعد پیدا ہو جانے کے باوجود خود کیوں ساری عمر پیسمہ دیتے رہے اور جب خود حضرت عیسیٰ نے ان سے پیسمہ لیا تو اس وقت پیسمہ کیوں دیا یا اپھران سے روح القدس کے ساتھ پیسمہ کیوں نہ لیا؟ اور جب ان پر روح القدس کا نزول بصورتِ کبوتر دیکھ لیا تھا تو پھر پیسمہ تک کیوں نہ کر دیا اور ابھی نبوت کو ان کی غلامی پر قربان کیوں نہ کیا؟ اور آخری ایام میں شاگرد بھیج کر کوئی درافت کرے رہے کہ [Click](#) مسمو تھے، اس کی

دیتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ قول بعد جوہ درست نہیں ہے:-

ا) وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ ملکہ خود اللہ سمجھتے ہیں نہ کہ نبی و رسول۔

اور یہاں لشارتِ موسیٰ علیہ السلام کی مثل نبی سے متعلق ہے۔

ب:- عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول اور حواری بھی سب

انبیاء علیہم السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں معاشرت کیسے پائی جاسکتی ہے۔

ج:- حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نہ تشریعی امور میں

معاشرت ہے اور نہ احکام کاریں اور نہ عنان اللہ قرب و منزالت ہیں۔ تشریعی امور میں

اس لیے معاشرت نہیں کہ دین موسیٰ علیہ السلام میں حدود و تعریفات وارویں اور احکام غسل و طہارت بھی اور مکولات و مشروبات میں سے محروم کا بیان بھی ہے جبکہ انہیں

عیسیٰ علیہ السلام جو متناadol و مرونح ہے دہان سب احکام سے خالی ہے۔ بلکہ

نورات کے مخالف مثلاً انہیں متی باب ۵، آیت ۲۳ تا آیت ۲۴ میں ہے:-

”وَتَمْ سُنْ چَكَّهُ كَهْ كَبَّا گَيَا تَهَا آنَكَهْ كَهْ بَدَلَهْ آنَكَهْ اَوْرَدَانَتْ كَهْ بَدَلَهْ دَانَتْ

نَبِينَ مِنْ تَمْ سَے يہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گاں پر

ٹھانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور کوئی سنجھ پسناش کر کے تیراگڑتا یا

چاہے تو چونہ بھی اس کو لینے دے اور جو کوئی سنجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے

تو اس کے ساتھ دو کوس چلا جا۔“

بلکہ پوس رسول نے تو شریعت کی ہی نفی کر دی ہے۔ چنانچہ گلیتوں باب ۳ پر

لکھا ہے:-

”وَكَيْوَنَهْ جَقْنَهْ شَرِيعَتْ كَهْ اَعْمَالْ پَتْكَيْرَهْ كَرَتْ ہے یہی وہ سب لذت کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ جو لوگ اس سب باطل کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب

Click

میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیدے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راستباز نہیں ملھرتا۔ کیونکہ لکھا ہے، راستباز ایمان سے جیتا ہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ میع جو ہمکے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا” (آیت ۱۰ تا ۱۳)

اور شریعت مد ایمان میں فرق بتاتے ہوئے پوس نے اس طرح کہا:-

”میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو بیبا یا، یا ایمان کے پیغام سے؟ کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر ضردع کر کے اب جسم کے طور پر پورا کرنا پاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے قائد اٹھائیں؟“

جب شریعت ہی نوؤذ باللہ لعنت ملھری اور صرف جسم سے اس کا تعلق ہے نہ کہ روح سے، تو روحانیوں کو اس سے کیا کام۔ اور چھر شریعت رہے اور اس پر عمل کی پابندی برقرار رہے تو حضرت علیہ السلام کا سولی پر چڑھے صناہی دیکار جائے گا لہذا امور شریعت میں حضرت کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام میں مخالفت کا نہ پایا جانا فرندوں سے بھی زیادہ واضح ہو گیا۔

۶۔ رہا انجام کا رادر عاقبت کا معاملہ، تو نوؤذ باللہ بقول پوس رسول حضرت میع سولی پر چڑھ کر لعنتی بن گئے۔ ملاحظہ ہو گلیتوں با ۱۲-۱۳ ”میع جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے، جو کوئی نکڑا پر لہکایا گبا وہ لعنتی ہے“

جبکہ حضرت مرسی علیہ السلام نہ اپنی امت کا کفارہ بننے نہ سولی پر چڑھے اور نہ ہی لعنتی ہوئے اور ظاہر سے لعنت کا موت کا حتم Click

حضرت علیہ جنہی ہوئے جبکہ حضرت کلیم اللہ اس سے محفوظ و مامون۔

ک - اسی طرح عند اللہ قرب و نزالت کے لحاظ سے بھی محاشرت کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ استثناء باب ۳۲-۱۰، پر تعریف موجود ہے:-

”اب تک بنی اسرائیل میں موسیٰؑ کی مانند کوئی نبی نہیں اٹھا جس سے خدا آئنے سامنے آشنا فی کرتا۔“

پیر اندازی عہد نامہ ۱۸۹۵ء اور مطبوعہ ۱۹۰۳ء کے الفاظ یہ ہیں:-
”اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰؑ کی مانند جس سے خداوند نے رو رہ باتیں کیں، نہیں اٹھا۔“

اگر استثناء کی یہ عبارت درست ہے تو دعویٰ محاشرت کا مرتبہ و تقرب میں باطل اور محاشرت کا دعویٰ سچا ہے تو آسمانی کتاب کی یہ آیت غلط، کتاب غیر معتبر ہو جائے تو بھی نذر مہب کا صفائیا، اور محاشرت کا دعویٰ بالمل ہو جائے تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت رسالت واضح ہے۔

۳ - حضرت علیہ السلام لوگوں کے دریافت کرنے پر تورات پڑھنے کی تلقین فرمائیتے تھے یا فقہیوں اور فریضیوں کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیتے تھے -
انجیل لوقا باب ۱-۲۵ میں ہے:-

”اور دیکھو ایک عالمِ شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آذماںش کرنے لگا کہ اے استاد! میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا مالک بنوں۔ اس نے اس سے کہا تو رات میں کیا کہا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس فے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سا سے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھا گزا۔ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کرت تو تُرچیے گا۔“

”اس وقت یسوع نے بھیرا اور اپنے شاگردوں سے یہ بتیں کہ نقیہ در فریضی موسیٰ کی گئی پر بنیجھے ہیں۔ پس جو کچھ وہ تھیں بتائیں وہ سب کرو اور مالو لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ مکتوب ہیں اور کرتے نہ ہیں“ اخ

اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ احکام میں تورات کے تابع تھے، لہذا مولیٰ علیہ السلام کی مانند مستقل صاحبِ شرع نہ ہوتے، بلکہ ان کی کتاب کے مبنی، لہذا محاشرت ختم ہو گئی۔

۵۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے صرف مبلغ نہیں تھے بلکہ ان میں احکام اور صدور و تعزیرات نافذ کرنے والے تھے جبکہ حضرت علیہ السلام صرف تبلیغ پر اکتفا فرمائے والے تھے۔ لہذا ان کے منصب کو محض خالقاہی ماحول کی مثل قرار دیا جاسکتا ہے۔ حاکم شرعی اور سلطنتی خلاف نظری کے نائب نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کا ذاتی مسکن اور مکان ہی نہیں تھا۔ ملک و حکومت کو بہت دوسری بات ہے۔ پھر ان کو جس کسی مپُرسی کی حالت میں سولی پہ چڑھایا گیا اور جو سوک یہود و کفار نے ان کے ساتھ کیا، اس کے ہوتے ہوئے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے محاشرت کا دعویٰ کیونکر کیا جاسکتا ہے۔

انجیل لوقا باب ۲۲-۴۲ پر مرقوم ہے۔

”اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھیوں سے الٹاتے تھے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے، نبوت سے بتا، کیجے کس نے مارا اور انہوں نے طعنہ بے اور بھی بہت سی باتیں اس کے علاوہ کیں۔“

اہ انجیل متی باب ۲۰-۲۰ پر یوں مرقوم ہے۔

”اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قدر میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس نے رہا۔“ Click

سر پر رکھا اور ایک سر کنڈا اس کے داہنے پا تھیں دیا اور اس کے آگے گھٹنے لیکر کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگئے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب! اور اس پر چھوکا اور وہی سر کنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگئے۔ اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چونکہ کو اس پر سے اتار کر چکر اس بے کپڑے اس کو پہنادیے اور مصلوب کرنے کو لے گئے (اور جب مصلوب کر چکے تو) راہ چلنے والے سر ٹلا ٹلا کر اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے۔ اے مقدس کے دھانے والے اور تمین دن میں اس کو بنانے والے! اپنے تیس بچا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صدیب پر سے اتر آتا، اور تمیرے پھر کے وقت یسوع نے بڑی آواز سے چلا چلا کر کہا «ایلی ایلی لما شبقتنی»، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟”

اس صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مثال کون نسیم کرے گا۔ جو فرعونی قوت سے مکرا گئے اور تمام بني اسرائیل کو اس کی سختیوں سے نجات دلا کر اس کے آبائی وطن میں واپس لائے اور انہیں ایک ملک عطا کر کے عزت و آبرو کی زندگی بخشی۔

اگر ان تمام امور میں کوئی ہستی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثال نظر آتی ہے تو وہ مرف اور صرف رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی مستقل شریعت ہے۔ اس میں سخیریم و تحلیل اور حدود و قصاص اور تعزیرات کا بیان ہے۔ اور آپ کو ان کے نفاذ کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ ملکِ عرب کی حکومت و سلطنت صحی آپ کے قدموں میں تھی۔ اور آپ کے غلاموں نے تو قیصر و کسری کی سلطنتوں کو پاش پاش کر کے آپ کے کلمہ کو بلند کیا۔ آپ نے مکہ مکرمہ کی طاغوتی طاقتیوں کو نیست و نابود کیا لیکہ قیصر و کسری کو بھی صاف کہہ دیا۔ “آسْلِحْ تَسْلَمْ” حلقہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو دنیا د آخرت میں محفوظ رہو گے ورنہ نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اور جس طرح فرمایا اسی طرح ہو گیا اور

Click

وہ اس حقیقتی پر آپ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہ کر سکے۔
الغرض ان امور میں اور ان کے علاوہ بیسیوں امور میں آپ میں اور حضرت کلیم میں
مائیت موجود ہے۔

۱- آپ نے جہاد کیا اور حضرت کلیم نے بھی جہاد کیا۔
۲- آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی
میں کی طرف ہجرت کی اور بعد ازاں مصر سے ملک کنعان کی طرف متقل ہوئے اور وہاں اپنے
دین کی مکمل تعلیم دی اور اس کا نفاذ کیا۔

۳- آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور دیدار کا شرف
حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سر ٹوڑ ہم کلامی اور تجھی دیکھنے کا شرف
حاصل ہوا۔

۴- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلی کے اشائے سے دولخت کیا اور موسیٰ
علیہ السلام نے عصا مار کر زیکرہ قلزم کو دو حصے کر دیا۔

۵- آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے پیشے روان فرمائے اور
حضرت کلیم نے پتھر پر عصا مار کر بارہ پیشے جاری کیے۔

۶- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربوت اور لشان رسالت آپ کے دو کندھوں کے
درمیان تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشان ثبوت ان کا یہ بیضار تھا۔

۷- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مبارکہ میں سے اور در در سے مقامات سے
بتوں کو مٹایا اور بُت پرستی کا خاتمہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو نیت و
نابود کر کے بنی اسرائیل سے بت پرستی کا صفائی کیا۔

رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کو قتل کر کے ان کی کمر توڑی اور حضرت
کلیم نے بھی انھیں قتل کر لائے۔

Click

۸۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین فرماز وا ہوئے اور دین اسلام کی توسعہ اور دارالاسلام کی وسعت اور پھیلاؤ کا موجب اور قیصر و کسری جیسے عظیم فرمازوں کی شکست اور بردادی کا موجب۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع فرماز وا ہوئے اور جبارین کی شکست دریخت کا موجب، جس کا بیان صداقت نشان اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بمراحت موجود ہے :-

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ كُلُّهُمْ دِيْنُهُمُ الَّذِي أَرْتَصَنَ لَهُمْ وَلَيُبَيِّنَ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْثَاه“

ترجمہ:- اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایاں ہے نے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ انھیں ضرور بالغور زمین میں خلاقت عطا کرے گا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی اور ان کے بیے اس دین کو مستحب کرے گا جو ان کے لیے پسند کیا اور ضرور بالغور ان کو خوف کے بعد امن عطا کرے گا۔

اور انہی مثالات اور مناسبات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-
”إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِيدًا لِآيَاتِنَا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا“

ترجمہ:- بے شک ہم نے متحاری طرف ایک رسول بھیجا جو متحار اگر ان اور گواہ ہے جیسے کہ فرعون کی طرف ایک رسول بھیا۔ (یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو) لہذا قرآن مجید کی اس آیت نے اس پیشیگوئی کا وقوع بیان کر دیا جس کا مدلیں سے پرداہنے کا انتظار تھا۔

بنی اسرائیل کے بھائی کون؟

استشنا اور اعمال میں مذکور اس پیغمبر کے الفاظ میں خور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر کے لیے مژده نہیں سنایا گیا ورنہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ایک بُنیٰ تیری مانند پیدا کر دوں گا، مگر اس کے عکس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک بُنیٰ تیری مثل پیدا کر دوں گا۔ اور نظر ہے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل حضرت موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں لہذا ان کے بھائی ان کے علاوہ ہوں گے نہ کہ وہ خود۔ اور یہ خود ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل ان کے بھائی ہیں اور یہی محاصرہ عہدہ قدیم میں بھی مستعمل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پیدالش باب ۱۶-۱۷ میں مرقوم ہے۔ اور یاد رہے کہ پیدالش تورات کا پہلا حصہ ہے اور استشنا اگری، لہذا تورات کی تغیری تورات سے ہو جائے گی۔

”خداد مرکے فرشتہ نے اس (ماجرہ) سے کہا تزحیلہ ہے اور تیرے بیٹا ہو گا۔ اس کا نام اسماعیل رکھنا اس لیے کہ خداد مرکے تیرا دکھ مُسُن لیا۔ وہ گور خرک طرح آزاد مرد ہو گا۔ اس کا ماتھ سب کے خلاف اور سب کے ماتھ اس کے خلاف ہوں گے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بس ا رہے گا۔

Click

” اسماعیل کی کل عمر ایک سو سی نیمیں برس کی ہوئی تب اس نے دم چھوڑ دیا اور دفات پائی اور اپنے لوگوں میں جاملا اور اس کی اولاد حوبیہ سے شوستک جومہر کے سامنے اس راستے پر ہے جس سے اسور کو جاتے ہیں، آباد تھی۔ یہ سب لوگ اپنے سب بھائیوں کے سامنے لے سے ہوئے تھے۔“

لہذا واضح ہو گیا کہ یہ پیشینگوئی بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر کے لیے نہیں بلکہ بنی اسماعیل کے اس پشم و چراغ کے لیے ہے جس نے پوری دنیا کو نور اسلام سے منور کر کے اللہ تعالیٰ کے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدہ کو پورا کر دھلایا۔ ”تیری نسل کے وسیلے سے دنیا کی سب قریبیں برکت پائیں گی“ (پیدائش باب ۲۳)

ازالہ شُبیہ

یہ بجا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاوہ بھی حضرت اسحاقؑ کی اولاد تھی اور وہ بھی بنی اسرائیل کے بھائی کہلاتے تھے۔ لیکن بنی عیصو وغیرہ کوئی بنی ایسا نہ ہوا اور نہ ہی یہود دنصاری میں سے کسی نے ان کے را بھونے کا قول کیا۔ یہود نے اس مردہ کا مصدق حضرت یوشع کو قرار دیا اور دنصاری نے حضرت مسیح کو، لہذا دونوں کے اجماع سے بنی عیصو کا مراد ہوتا باطل اور بھائے پیشی کروہ وجہ اور دلائل سے ان دونوں فرق کا دعویٰ بھی باطل اور قول حق واضح ہو چکا کہ اس کا مصدق بنی امی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔



خدا کا کلام کس نبی کے منہ میں تھا؟

استثناء کی پیشیگوئی میں یہ تصریح موجود ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اس کو حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کلام پہلے انبیاء، علیہم السلام پینازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے کلام سے مختلف ہو گا ورنہ اس کو بطور خاص ذکر کرنے کی ضرورت بھی کیا نہیں۔ جبکہ ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کا کلام کتابی صورت میں یا بطورِ الہام وغیرہ نازل ہوتا ہی رہا ہے اور اختلاف اتیاز کی صورت یہی ہو گی کہ وہ کلام ایسا معجز اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہو گا کہ مخلوق اس کی مثل لانے سے عاجز اور قاصر ہو گی اور جس کے منہ سے وہ کلام ظاہر ہو گا، لوگ یقین سے کہہ سکیں گے کہ یہ کلام اس شخص کا اپنا نہیں ہو سکتا ورنہ ہم اس کے مقابلہ و معارضہ سے عاجز و قاصر ہوتے۔ نیز جب اس کلام کو اللہ تعالیٰ اپنا کلام کہہ رہا ہے تو ہر اس میں دعام و ادبیت بونی ضروری ہے اور اس کا تغیر و تبدل اور لوگوں کی تحریف و تغیر سے محفوظ ہونا لازمی ہے۔ علاوہ ازیں جس شخص پر اس کلام اور ان احکام کا نزول ہوا اس کا امی ہونا اور مدرس و مکاتب میں تعلیم و تربیت پانے سے بالاتر ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی زندگی کی کتاب ہی اس کے اس منصب خداداد کی

Click

ابنا نہیں۔

اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے تو صرف نبی اکرم رسول مختشم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس پیشینگوئی کے مصدق بن سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی زبان اقدس سخن سخن والا کلام اس تدریفیع و بیان اور اعجاز نشان تھا کہ فصحی اور مخاطب اور مخاطر قحطان با وجود شدید ترین خالقیت و معاندت کے پھرے ترآن یا اس کی دس طویل سورتوں کی مثل لانے پر تو کب قادر ہو سکتے تھے جبکہ وہ ایک مختصر ترین سورہ کی مثل لانے پر بھی قادر نہ ہو سکے۔ حالانکہ انھیں ہر طرح غیرت اور جوش دلانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی تھی۔ انھیں اجتماعی کوشش کر دیکھنے کا حکم دینے کے ساتھ اپنے معبودات اور تمام معاون و مددگاروں کو بلانے کا حکم بھی دیا گی۔

”فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَ كُرْمَنْ دُونِ اَللَّهِ“

اور مختصر ترین سورت کی مثل بھی نہ لاسکنے کا پیشگی دعویٰ کر کے ان کو پوری جزویہ اور قوت و طاقت، استعدادات و صلاحیات استعمال کرنے پر اکسایا گیا۔

”فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا۔“

اور اس مجرم و ناتوانی کے باوجود کفر و انکار پر ڈٹے رہنے کی صورت میں دوزخ کی آگ میں داخل ہونے کی وعید و تهدید بھی سنائی گئی لیکن وہ آپ کے ساتھ حروف و کلمات میں مقابلہ کی جائے تلواروں اور نیزدہ کے ساتھ غاربہ پر کربستہ ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر کیا دیں مطلوب ہو گی اس کلام کے کلام خدا ہونے پر، کہ ایک طرف ایک فرد اور وہ بھی اُتمی اور دوسرا طرف اُتمی مشاق اور تربیت یا فتح فصحی اور بلغار روزگار لیکن ۵

تیرے آگے یوں ہیں دبے پچے فصحی اور بڑے بڑے
کوئی سمجھے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں

Click

میں شارییرے کلامِ ملی یوں تو کس کو زبان نہیں
دو سکن ہے جس میں سخن نہ ہمدہ بیال ہے جس کا بیال نہیں

اور یہ امیانہ کسی دوسری آسمانی کتاب اور الہامی کلام میں نہیں ہے۔

امر شافی کو دیکھو تو ہر آسمانی کتاب میں تحریف و نسخ اور تغیر و تبدل موجود ہے مگر
مرفت کلام جمیع ہے جو تمام تر باطل قولوں کی سمجھ کو شش اور جدوجہد کے باوجود مکمل طور پر
محفوظاً ہے اول اس کے اندر زیر وزیر کا بھی فرق نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ بلکہ اگر بالفرض دنیا
سے تمام نسخے معدوم بھی ہو جائیں تو بلا کم و کاست فوراً حفاظ کرام اس کو از سر نوکھوا سکتے
ہیں۔ اور امر شافی کا تو اثبات محتاجِ دلیں ہی نہیں ہے۔ دنیا کا ہر فرد جانتا ہے کہ عرب کا
یہ تاجبلد کس طرح شیعی اور مکنت کے ادوار سے گزر اور جس علاقہ میں آپ کی دادت
باسعادت ہوئی وہ پورا علاقہ اور ساری قوم ہے۔ تعلیم و تعلم سے کوئی دور تھی اور زمانے ہر
میں امتِ امیہ کے لقب سے ہی مشہور و معروف تھی، لہذا اس مژده اور بشارت اور
پیشینگوں کا مصدقہ ہیں تو صرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم، جن کی اس شان کو علی الاعلان
اس طرح بیان کیا گی ہے

”وَمَا يَنْبُغِي عَنِ الْهَوْى إِنْ هُوَ لَاَدْجُوٌ يَوْحِى“

اوہ بزراؤں نکتہ چینوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی امر میں اس دعویٰ کو غلط نہ بتا
کیا جا سکا اور ہر سوال کا جواب عین واقع کے مطابق ملا اور پرکھنے والے اپنا سامنے لے کر
رہ گئے۔ والحمد للہ علی ذکر۔

کس بھی کی بات نہ سنتے والوں کو کاٹ ڈالا گیا؟

استثناء میں آئے والے نبی کے متعلق فرمایا کہ:-

”جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرے نام سے کہے گا، نہ بنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا“

اور اعمال باب ۳ - ۲۳ میں اس طرح مرقوم ہے کہ:-

”اور یوں ہو گا کہ جو شخص اس نبی کی نہیں ہے گا وہ امت سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔“

ظاہر ہے کہ حساب لینے کا جو تذکرہ استثناء میں کیا گیا تھا اعمال میں اس کی صورت بیان کردی گئی کہ یہاں حساب سے مراد اُخودی حساب نہیں وہ تو ہر نبی کے منکریں سے لیا ہی جانا ہے۔ پھر اس نبی کی خصوصیت کیا ہے گی۔ بلکہ دنیا کا حساب مراد ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس نبی کی موجودگی میں ان کے مخالفین کو نیست و نابود نہ کیا جائے تو اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہو گا۔ لہذا یہاں اسی حساب کو بیان کیا گیا ہے۔ جو دنیا میں ان کی تباہی و بربادی کے ذریعے لیا جائے گا۔ اور جلدی اور حضرت یحییٰ اور حضرت زکریٰ دد گیر ان بیانات علیہم السلام کو شہید کرنے والے بھی بالآخر انتقام کا نشانہ تو بن ہی گئے تھے۔ پھر وجہ تخفیض کیا رہی، لہذا یہ لازم

Click

مہر اکہ مخالفین دنکریں کو اس نبی کے سامنے نباہ در برد کیا جائے۔

آئیے اس پس منظر میں بھی اس پیشینگوئی کو دیکھیں قواس کا مصدق صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے مخالفین قریب مکہ اور یہود بتو نضیر و بنو قریظہ اور اہل خبر کچل کر رکھ دیجئے گئے اور تمام قبائل عرب کو آپ کے آستان عرش نشان پر جیہے فرسانی کے علاوہ کوئی چارہ کا نظر نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت عیینی عیہ السلام کا معاملہ بقول نعازی یہ ہے کہ انھیں انتہائی کس پرسی کے عالم میں مخالفین نے طعن و تشبیع اور مزاح و استہزا کا نشانہ بنانے کے بعد سولی پر لٹکا دیا اور بالآخر وہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے "ایمی ایمی لما شبقتی (ابنیل متی باب ۴۶-۴۷) الوہی الوہی لہا شبقتی (ابنیل مرقس باب ۱۵-۳۲)

جس کا ترجمہ یہ ہے "اے میرے صد اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟" بلکہ انھوں نے خود پہلے سے اپنی اس ہتھ اور بے آہروئی کا مفصل تذکرہ حواریوں سے کر دیا تھا۔ ملاحظہ ہواجیل لوقا باب ۱۸-۳۱۔

لاپھراں نے ان بارہ کو ساختہ کے کران سے کہا کہ دیکھو ہم پر شتم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئی ہیں، ابن آدم (حضرت عیینی) کے حق میں پوری ہوں گی کیونکہ وہ غیر قوموں والوں کے حوالے کیا جائے گا اور لوگ اس کو مٹھوں میں اڑائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور تمیرے دن جی اٹھے گا لیکن انھوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا۔"

لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مخالفین کے ساختہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر کوئی کارروائی نہ ہوئی بلکہ حواری بھی اسی تشدید کا نشانہ بنتے رہے۔ لہذا اس پیشینگوئی کا مصدق حضرت عیینی علیہ السلام مدار کر کر نہیں

Click

جاگتا ہے۔

ازالہ شریف

ممکن ہے کہ عیسائی لوگ کہیں کہ بہ پیشینگوئی حضرت علیہ السلام کے دوبارہ ظہور سے مشعلق ہے اور اس وقت ان کا غلبہ اور سلطانِ اسلام کو بھی ستم ہے تو یہ توجیہ و تاویل لغو اور ہے سودبے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعده کرتے وقت اس فسم کا کوئی اشارہ بھی نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں جب پہلے ظہور کا یہ انجام ہوا تو اس نے لوگوں کو یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ یہ نبی وہ نہیں یہی ورنہ ان کا یہ حشر نہ ہوتا لہذا دوسرے ندوں ظہور کا انتظار کسی بہتر نتیجہ کا عامل کیے ہو سکتا تھا۔

ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سروں نے تک
رہ گیا اہل اسلام کا ان کے نزول اور ان کے غلبہ کو تسلیم کرنا تو وہ محمد کریم علیہ الصلوٰۃ
وال تسالیم کے دین برق کے خادم کی چیزیت سے نزول ہو گا اور آپ کے لخت جگہ
نور نظر حضرت مہدی علیہ السلام ان کے لیے فضاساز گار کریں گے اور حضور کی امت آپ
کی معاون و مددگار ہو گی۔ گویا یہ غلبہ ان کو نبی الانبیاء علیہ و علیہم الصلوٰۃ کی برکت اور
نگاہِ کرم سے حاصل ہو گا۔ تو پھر اس پیشینگوئی کے مصدق بھی دہی ہوں گے جن کی بدولت
حضرت علیئی کو یہ شرف حاصل ہو گا۔ کب یہ ظلم غلطیم نہ ہو گا کہ طفیلی کو مصدق تسلیم کیا جائے
اور سرچشمہِ مرت و کرامت کو نظر انداز کر دیا جائے۔ وال اللہ در رسولہ اعلم

• ~ • ~ • سُبْحَانَ رَبِّكَ • ~ •

بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلق اور ائمہ رضاؑ کی سلطنت

کا بیان بزرگ حضرت دانیال علیہ السلام

سابقہ پیش نگوئی میں اس نبی کی بات نہ سننے اور نہ ماننے والے کا نجام آپ کو معلوم ہو چکا تو اسی مناسبت سے ہم عبد قریم وجدیر کتابوں سے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی حکومت و سلطنت سے متعلق بشارات بیان کیے دیتے ہیں اور فی الفین و میماندین کے تہس نہس کر دیتے کا بیان تاکہ ہماری سابقہ تحریر کی تائید و تصدیق ہو جائے۔ تفصیل اس اجمالی یہ ہے کہ رد افی ایل باب ۲ - اقسام) :-

”بخت نصر بادشاہ (بنو کندھر) نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی بیند جاتی رہی۔ نب بادشاہ نے حکم دیا کہ نجومیوں اور جادوگروں اور کسر لیوں کو بلا میں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔“

ولیکن جب وہ خواب اور اس کی تغیری بتلانے سے عاجز آگئے تو حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا یا گیا۔ آپ نے وہ خواب بھی بتلا دیا اور اس کی حقیقتی اور یقینی تغیری بھی چنانچہ آپ نے فرمایا:-)

”لے بادشاہ! تو اپنے پنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہونے والا ہے۔ سودہ جو رازوں کا کھولنے والا ہے تجویز طاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہو گا۔ لے بادشاہ! تو نے ایک ہوت دیکھی۔ اس ہوت کا مرخ [Click](#) کرنے کا تھا، اس کا سزا اور اس کے

بانہ و چاندی کے تھے۔ اس کا شکم اور اس کی رائیں تابنے کی تھیں۔ اس کی طائفگیں لو بے کی اور اس کے پاؤں کچھ لو ہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر اسی کا ٹھاگی اور اس مورت کے پاؤں پر جو لو ہے اور مٹی کے تھے، لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تابنا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابنا بتانی کھلیاں کے جھوے کی مانند ہوئے اور ہوا ان کو اڈا لے گئی، یہاں تک کہ ان کا پتہ بھی نہ طا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پھارا بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ ” وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں :-

” وہ سونے کا سر تو ہی ہے اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہو گی جو تھوڑے چھوٹی ہو گی۔ اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تابنے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ اور چھوٹی سلطنت لو ہے کی مانند مضبوط ہو گی ... (تا) اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کھارک مٹی کی اور کچھ لو ہے کی تھیں سو اس سلطنت میں تفرقة ہو گا ... (تا) اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جوتا ابد نیست نہ ہو گی اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہی اپنے تک قائم ہے گی ... (تا) یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی۔ (دانی ایل باب ۲-۱ تا ۳۵-۲)

اس خواب کی تعبیر میں جیسے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے بتایا ایہی سلطنت سے مراد بنو کد نظر یعنی خود بخت نصر کی سلطنت ہے اور دوسری سلطنت سے مراد ماوین کا تسلط ہے جو کہ بخت نصر کے بیٹے بیشتر کے قتل کے بعد دار امدادی کے ہاتھوں میں آگیا جیسے کہ دانی ایل باب میں تصریح موجود ہے۔

لیکن اس کی سلطنت بخت نصر کی سلطنت کی نسبت ضعیف اور کمزور تھی۔ اس کے

Click

بعد تیری سلطنت سے مراد خور مس فاری کی سلطنت ہے جو قیسین کے نزدیک کیخنرو کے لقب سے ملقب ہے۔ اس کی سلطنت میں دریائے سندھ سے لے کر دریائے نيلانک کے علاقے شامل تھے۔ حتیٰ کہ اس نے بخت نصر کے پایہ بنت اور دارالسلطنت بابل کو بھی فتح کر کے اپنی ملکت میں شامل کر لیا تھا۔ اور اس طرح مادی و فاری سلطنتیں ایک ہی حکمران کے ہاتھ میں آگئیں۔ (تاریخ بائبل ص ۳۱۲)

اور چوتھی سلطنت جو لوہے کی مانند مضبوط تھی اس سے مراد سکندر رومی کی سلطنت ہے جس نے دیار فارس پر قبضہ جایا اور اپنے راستے میں حائل ہر کادٹ کو توڑ کر کھو دیا اور یہی دافی ایل کے اس خواب کی تعبیر ہے۔ جس میں انہوں نے دریائے ادلاٹ کے مشرق میں ایک بینہ ڈھا کھڑا دیکھا جو مغرب اور شمال و جنوب میں اپنے دونوں سینگ مار رہا تھا۔ اور ہر چیز اس کے مقابلہ سے عاجز آگئی۔ اور اسی دوران مغرب سے ایک بکران نو دار ہوا جس نے اپنے زور دار سینگ سے اس بینہ کے دونوں سینگ تڑڑالے اور بالآخر اس کو زمین پر ڈپک دیا اور تار ڈال کر اس کو بکرے سے چھڑانہ سکا۔ بعد ازاں ان کو اس کی تعبیر بتلاتے ہوئے کہا گیا کہ بینہ کے دونوں سینگ مادی (و فاری) سلطنت کی طرف اشارہ ہیں اور مغرب سے آگراں سیعیگوں کو توڑنے اور بینہ کے کولتا ہنے والا یونان کا باوشاہ ہے۔ جس کی تفصیل دافی ایل باب ۹۶۸ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اور تاریخ بائبل از ڈاکٹر ولیم بلیکی صاحب میں، ۱۸۴۹ء پر بھی سکندر اعظم کی دفات کے بعد اس کی سلطنت تقسیم ہو گئی جس طرح کہ دافی ایل کے خواب میں ہے کہ بکرے کا سینگ ٹوٹ گیا اور اس کی جگہ چارا در سینگ آسمان کی چار ہواوں کی طرف پیدا ہوئے یعنی اس کی وسیع سلطنت انجام کاراں سے چار سپہ سالاروں میں منقسم ہوئی جس کے نام یہ ہیں: طالمی، سیمیکس، کنڈا در سلیوکس۔ مصر طالمی کے حصے میں آیا اور فلسطین بھی رفتہ رفتہ اسی کے حصے میں شامل ہوتا۔ بنو اُثرا

Click

اور بالا در سکندر اعظم کے مفتوحات دو حصوں میں تقسیم ہو کر رومی اور فارسی سلطنت بن گئے۔ اور فلسطین و یروشلم ہرقل رومی کے زیر سلطنت تھا جس پر وقتی طور پر فارسی غالب نظر آئے مگر کلام مجید کی پیش یگوئی کے مطابق «غَلْبَتِ الْوَدْمَ قِادِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سِيَغْلِبُونَ فِي بَعْضِ سَنِينَ» یروشلم پر رومیوں کا قبضہ چڑھا ل ہو گیا۔ اور اسی دوران عرب مشریق میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت قائم ہو گئی، جو مخفی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اعجاز تھا اور ظاہری اسباب کا اس میں مطلقاً داخل نہیں تھا اور یہ سلطنت قیصر و کسری کی سلطنتوں (جو کہ بخت نصر کی مورت کی طائفیں اور پنجے تھے) کے مقابل ایک چھوٹے سے پتھر کی مانند تھی مگر اس پتھرنے ان کو اس طرح تہس نہیں کیا کہ کسری کا نام و نشان مت گیا اور قیصر رومی ہرقل بھی شکست پر شکست کھاتا ہوا دو روز بعد علاقوں میں محصور ہو کر رہ گیا اور سلطنت اسلام دیکھتے ہی دیکھتے ایک ناقابل تسلیم پیارہ بن گئی۔

اور صدیوں سے ان علاقوں میں اہل اسلام کا ہی تسلط ہے۔ اور ہر وقت اشہد ات لا اللہ الا اللہ دا شہد ات محمد رسول اللہ کی صدائیں ان علاقوں میں آسمانی بادشاہیت کا منہ بوتا ثبوت ہیں اور معنوں ات بالله یعنی انسان و اوثان اور صلیب و آتش پرستی کا صفا یا کردیا گیا۔ اور اللہ دحدہ لا شرکیہ لا کی بادشاہیت کا اقرار و اعتراف کرایا گیا۔ اور اسی کی عبادت و پرستش کو عملی جامہ پہنا یا گیا۔ اور انشاء اللہ العزیز تا قیام قیامت اسی طرح رہے گا۔

اگر وقتی طور پر کچھ ضعف آیا بھی تو وہ بالآخر امام نہدی علیہ السلام کے مقدس ہاتھ سے دور ہو جائے گا۔ جیسے کہ دافنی اہل کوتیا یا گی۔ تمام آسمان کے یہی سب ٹکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حیثت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائیگی اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرمانبردار ہوں گی (باب ۸-۲۶)

Click

کیا اس سلطنت کے مالک میسح ہیں؟

عیسائی صاحبان کا اس بادشاہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت قرار دینا حقائق کا منہ چڑھانے کے متراود ہے اور سورج کو دوپہر کے وقت اپنی سنتی سے ڈھانپنے کے متراود ہے۔ بھلادوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جن کو رہا شکے لیے مکان بھی میر نہیں تھا؛ جیسے کہ خود فرماتے ہیں :-

”لودھیوں کے بھٹکتے ہیں ادھڑا کے پہنڈوں کے گھولے، مگر ابن آدم کے لیے سردھرنے کی بھی جگہ نہیں“؛ (متی باب ۸ - ۲)

علاوه ازیں یہاں ایک ظاہری سلطنت اور حکومت کی بات ہو رہی ہے جیسے کہ بخت نصر اور پچھے بادشاہوں کو حاصل ہونی لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری سلطنت ظاہر میں نہیں ہوگی۔

”جب فریضیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہیں آئے گی اور لوگ یہ نہ کہیں گے Click

کہ دیکھو یہاں ہے وہاں ہے ۔ دیکھو خدا کی بادشاہی متحاںے درمیان ہے۔

(د انجیل نوقا - باب ۱۷ - ۲۰)

لہذا حتمی اور قطعی طور پر ثابت ہوا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ذکر کردہ آسمانی بادشاہت اور خداوندی سلطنت کا مصدقاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کے خلق اور افراد اسلام جنگوں نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے علاقوں پر محیط عظیم سلطنت قائم کی۔ اب مزید حوالے اس ضمن میں لاحظہ کریں تاکہ یہ حقیقت مزید واضح ہو جائے۔



http://jt.me/Tehqiqat

یسیاہ پیغمبر کی زبانی یہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینت اور سلطنتِ اسلام کی بشارت

یسیاہ باب ۲۳ - اتا، اے میں مرقوم ہے :-

"دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں۔ میرا بُرگنیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔
میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ وہ قوموں میں عدالتِ جاری کرے گا۔ وہ نہ چلا نے کا
نہ شود کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے مركنٹے
کو نہیں توڑے گا اور ٹھماقی بیتی کو نہیں بمحاجے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا۔
وہ ماندہ نہ ہو گا اور ہمت نہ ہے گا۔ جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے۔
جو یہے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ میں خداوند نے تجھے صداقت سے
بلایا۔ میں ہی تیراتا تھے پکڑاؤں گا اور تیری خاٹلت کروں گا اور لوگوں کے عہد اور
قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا (ان کو نور مہیا کرنے کے لیے تجھے بھیجنوں گا)
کہ تو انہوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے اور ان کو جواندھیرے میں
بیٹھے میں فیدخانہ سے چھڑائے۔

لے سخن دپر گزر نے والو! اور اس میں بنے والو! لے جزیرہ اور اس کے
باشندو! خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ۔ زمین پر سرتاسر اسی کی ستائش کرو۔ بیان
اور اس کی بستیاں۔ قیدار کے آباد گاؤں اینی آواز بلند کریں۔ سمع کے بنے دلے

Click


گیت گائیں، پہاڑوں کی چوڑیوں سے لکھائیں۔ وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جنہیں میں اس کی شناخوانی کریں۔ خداوند بہادر کی مانند نہ کے گا۔ وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھلائے گا۔ وہ نفرہ مارے گا۔ ہاں وہ ملکاۓ گا۔ وہ اپنے دشمنوں پر غالب کئے گا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا۔ میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا پر اب میں..... پہاڑوں اور ٹیلوں کو دیلان کر دالوں گا اور ان کے سبزہ زاروں کو خشک کروں گا اور ان کی ندیوں کو جنہیں رے بناؤں گا اور تالابوں کو سکھادوں گا..... میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا جو کھودی ہوئی موتیں پر جھرو۔ کرتے اور دھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں، تم ہماسے معبد ہو وہ پیغمبے ہیں گے اور بہت شرمند ہوں گے۔ (یسوعیاہ باب ۲۶- آتا ۱)

معمولی سُوچہ بُوچہ رکھنے والا شخص بھی ان آیات میں نظر کرنے کے بعد فوراً پکار اٹھے گا کہ یہ صرف اور صرف رسول حعظم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشارات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ بیچ کر امدادی اور دشمنوں سے محفوظ فرمایا "دَاعِ اللّٰهُ يَعْصِي مَا فِي أَنَّا سِ" میں اسے اتنا سی

قیدار جو کہ حضرت اسماعیلؑ کے فرزند تھے ان میں کس کی درج و شناسی میں آوازیں بلند ہوئیں اور مدینہ طیبہ کے پہاڑ سلع کے قریب بیٹے والوں نے کس پر درود وسلام نہیں بھیجے۔ اور کس نبی کی کتاب کی تلاوت کی اور کس شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور جزوئے کس کی شریعت کے انتظار میں تھے۔ اور کس نے موتیوں کو نیست و تابود کیا اور کس کی ہیبت و جلالت نے بت پرستوں کو پرے کیا اور شرمندگی و رسوانی سے دوچار کیا اور کس کے نور نے دل کے انہوں کو روشنائی بخشی۔ وہ صرف اور صرف "قَدْ جَاءَ كُمْ قِنَ اللّٰهُ نُورٌ" کی شان نورانی والے اور "حَمِيعًا إِنَّ اللّٰهُ بِإِذْنِهِ دَيْرَاجًا مُّنْبِرًا" کی تحریر والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہیں

Click

حضرت عیسیٰ ملیکہ الاسلام کی دعیگری اور حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تو
ان کو سولی پر کبھی نہ کایا جا سکتا تھا۔ ۶



http://t.me/Tehqiqat

حقوق بی کی بشارت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثت اور سلطنتِ اسلام سے متعلق

حقوق باب :-

"خدا تیمان سے آیا اور قدوس کو، فاران سے اس کا جلال آسمان پر چاگی اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی۔ اس کی جگہ گاہٹ نور کی مانند تھی۔ اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہایت تھی۔ وہاں اس کے آگے آگے چلتی تھی۔ اور آتشی تیراں کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین پھرا گئی۔ اس نے بھگاہ ڈالی اور قومیں پر اگنده ہو گئیں۔ از لی پیہاڑ پارہ پارہ ہو گئے قدیم ٹیکے جبک گئے۔ اس کی رائیں از لی ہیں (حقوق بی کی دعا باب ۳ - ۳ تا ۶)

کو، فاران سے ظاہر ہونے والی ہستی کوں ہے بس وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؛ جب اللہ تعالیٰ اور ملائکرنے اس پر صلوٰۃ بصیحی تو اس کا جلال آسمان والوں پر ظاہر ہوا، اور جب زمین میں درودِ سلام اور کلمہ شہادت کی صدائیں بلند ہونے لگیں، تو زمین حمد و نصار مصطفیٰ سے معمور ہو گئی۔ اس کے نور نے سائے جہان کو روشن کیا۔ ان کا ہاتھ یہ اللہ تھا اور قدرتِ خداوندی کا منظہر، جس کی بیت اللہ تعالیٰ کی بیت تھی۔

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

وَإِنَّ الْجِنَّاتَ لَمُتَبَايِعَاتٍ إِذَا يُؤْتَنَكَ أَسَايَا يُؤْتَنَ أَلْهَمَةً - يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْمَانِنِهِمْ
اور جس کا مارنا اللہ تعالیٰ کا مانا تھا کہ بردہ خین میں ایک ایک مشی مشی کی پھینکی
کو کفار دُم دبا کر بھاگ گئے۔

وَدَمَارَ مَنِيتٍ إِذْ رَعَيْتَ وَلِكِنَّ اللَّهَ دَمِيْ

جس کے سیداد سے ایو ان کسری میں نزلہ آیا اور شباب نبوت پر اس کی اور
قیصر کی زمین کا نپ اٹھی اور ظاہر ناقابل تحریر قدمی اور سلطنتیں پاش پاش ہو گئیں۔
اور اتنے بڑے بڑے پیار پارہ پارہ ہو گئے اور اس قسم جوک گئے کہ آج تک سیدع
ذ ہو سکے۔ والحمد للہ علی ذکر!



حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

"لے بنت صیبوں! توبیات شادمان ہو، لے دختر یروشلم! خوب لکار۔ کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ ده صادق ہے اور نبات اس کے ہاتھ میں ہے، دہ ملیم ہے اور جوان گدھے پرسوار ہے اور میں افزائیم سے رختا اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلح کا مژده دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائے زمین تک ہوگی،" راز کریا۔ باب ۹ - (۱۰۹۹)

حضرت زکریا علیہ السلام کے اس مژده کا مصدق بھی سولے رسول معظم نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت زکریا کی اس شہادت کے بعد ان کے لحاظ میں گھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت ملی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور سلطنت نہ ہری ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ بلکہ حضرت یحییٰ بھی مخفی مبلغ اور مصلح تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اول الذکر کو بھی قید میں رکھ کر بعد ازاں ہیرو دیس نے شہید کرا دیا اور بقول نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مصوب ہوئے اور انتہائی بیدردی کے ساتھ۔ نہ انہوں نے افزائیم سے رخت ختم کیے اور نہ یروشلم سے گھوڑے، نہ ان کی

Click

سلطنت سخندر سے سخندر تک اور نہ فلات سے انتہائی زمین تک پھیلی۔ اگر کسی بستی کی آمد سے انقلاب آیا اور یروشلم بغیر کسی لڑائی کے فتح ہوا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کے خلام حضرت علی بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ جن کو دیکھتے ہی اہل یروشلم نے رعایا ہونا قبول کر لیا اور ان کو اپنا حاکم۔ اور انہوں نے ہی قوموں کو صلح کا مژدہ اس طرح دیا کہ اسلام قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی بند اور اگر جزئیہ دیتا قبول کر لو تو بھی بمحاری جائیں اور مال اسی طرح واجب الاحترام اور محفوظ و مامون میں جس طرح اہل اسلام کی۔

شیہ کا ازالہ

گردھے پرسوار ہونے کے ساتھ حضرت علیہ السلام مشہور ہیں لہذا وہی مراد ہونگے یعنی صرف اس سواری کو دیکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیئے بلکہ سارہ سیاق و سباق دیکھنا چاہیئے اور جس طرح کہ بیان ہو چکا ہے حضرت علیہ السلام پر اس کا سیاق و سباق سچا نہیں آتا۔ گردھے پرسواری کا یہاں بیان کرنا دلیل حمل اور تواضع کے طور پر ہے اور اس کے لیے ہمیشہ گردھے پرسوار ہونا ضروری نہیں۔ صرف بعض دفعہ سوار ہونا کافی ہے اور یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ سر دری عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردھے کو بھی سواری کا شرف بخشنا جس طرح اؤٹیسیلوں، گھوڑوں اور چمروں کو۔ لہذا اس کو قلعنا اس دعویٰ کی دلیل نہیں بنا یا جاسکتا کہ اس پیشینگوئی سے مراد حضرت علیہ السلام ہی ہوں گے جنہوں نے خود فرمادیا کہ میرے لیے سر دری نے کی جگہ بھی نہیں ہے اور میری بادشاہی ظاہری طور پر نہیں ہوگی۔ کہ وہ کہہ سکیں یہاں ہے یا دتاں۔ جس طرح ذکر ہو چکا ہے۔

آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی

”حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی یہی اعلان کیا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں الفاظ کے ساتھ اعلان فرمایا“ انجیل متی باب ۵
 ”ان دنوں یوحنہ پیغمبر میں نے دالا آیا اور یہودیہ کے بیان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توہہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔ یہ وہی ”یوحنہ“ ہے جس کا ذکر مسیحیہ بنی کی معرفت ہوا کہ بیان میں پکارنے والے کی توا دانہ آتی ہے کہ خدا فندک را تیار کر دے۔
 اس کے راستے سیدھے بناؤ۔“

لیکن اگر ان کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اعلان کرنا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ لفظ استعمال نہ فرماتے بلکہ اس طرح کہتے کہ جس بادشاہت کی خبر تھیں حضرت یحییٰ نے دی ہے وہ میری بادشاہت ہے۔ حالانکہ خود انہوں نے بھی اس بادشاہت کی خوشخبری اسی انداز میں سنائی۔ ملاحظہ ہو انجیل متی باب ۵:-

”جب اس دیلیٰ علیہ السلام، نے سن کر یوحنہ پکڑ دیا گیا ہے تو گلیل کو روشنہ ہوا اور ناصرہ کو چپوڑا کفرنخوم میں جا با..... اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توہہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے اور یسوع تمام گلیل میں چھتریاں اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی

Click

خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی سہر طرح کی بیماری اور سہر طرح کی نزدی دوڑ کرتا انتہا۔ تو اس سے بلا شک و شبہ یہ حقیقت ملکشافت ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں مقدس پیغمبر کی دوسری سی کی تشریف آوری کا مژده لوگوں کو سناتے ہے اور ان کے لیے فضنا سازگار کرتے رہے۔ اسی صحن میں حضرت علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کرنا بھی بہت مناسب ہو گا جو آپ نے شاگردوں کو سکھائی اور لوگوں کے عام طور طریقہ سے ہٹ کر بکھر پکڑ دیا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ انجیل متی باب ۱:-

”پس تم اس طرح دھا کیا کرو کہ اے ہمایے باب! تو جو آسمان پر ہے تیرانام پاک مانا جائے۔ تیری بادشاہی آئئے۔ تیری مری میسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی پوری ہو۔“ (المزم - باب ۶، آیت ۹ تا ۱۰)

بلکہ جب آپ نے اپنے حواریوں کو بلاد اسرائیل میں دعوت و ارشاد اور وعدۃ و نصیحت کے لیے بھیجا تو ان کو حودصیت فرمائی اس میں خور کر لینا ضروری ہے تاکہ آسمانی بادشاہی کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے:-

”ان بارہ (رسولوں) کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا:۔ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامروں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔“ (انجیل متی باب ۱۰، ۵)

حضرت مسیح علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا میں بھی آسمانی بادشاہی کی طلب موجود ہے اور اگر بادشاہی آپ کی ہوتی تو اس کی طلب بے معنی تھی اور جب آپ نے رسولوں کو وعدۃ اور ارشاد کے لیے بھیجا تو ظاہر ہے کہ آپ کی نبوت درست معرفت و مشہور ہو چکی تھی۔ اور اس کا حلقة اثر بھی کافی دریعہ ہو چکا تھا لیکن پھر بھی رسولوں کو یہی حکم دیا کہ آسمان کی بادشاہی کے نزدیک آجائے کہ منادی کر تھا۔

Click

اقام نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کا ابھی انتظار تھا۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ستر شاگردوں کو تبلیغ کے لیے روانہ کیا تو ان کو بھی اسی طرح منادی کی وصیت کی۔ انجیل و مقامیں ہے:-

”جب شہر میں تم داخل ہوا دردہاں کے لوگ تھیں قبول کریں تو جو کچھ مختارے سامنے رکھا جائے کھاؤ اور روہاں کے بیماروں کو اچھا کرو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی مختارے نزدیک آپ پہنچی ہے۔ لیکن جس شہر میں داخل ہوا دردہاں کے لوگ تھیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو مختارے شہر سے ہماۓ پاؤں میں لگی ہے، مختارے سامنے جھاڑے دیتے ہیں۔ مگر یہ جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آپ پہنچی ہے۔“ (لوقا، باب ۱۔ ۸ تا ۱۱)

اس عبارت سے بھی صاف واضح ہے کہ ان ستر شاگردوں نے اس بادشاہت کے قریب پہنچنے کا ذکر کیا اور حضرت مسیح نے بھی انھیں یہی الفاظ سکھلانے۔ خود ان کی سلطنت مراد ہوتی تو لوگوں کو یہ منادی کرنے کا حکم دیتے کہ آسمان کی بادشاہت ظاہر ہو چکی ہے۔ لہذا اس بادشاہت سے مراد وہی بادشاہت ہے جو دنیا کی علیہ السلام کی تعمیر میں تھی۔ اور حضرت یسوع اہ کی خوشخبری میں جس نے صحیح معنوں میں توحید خداوندے لوگوں کو روشن اس کرایا اور اس کے احکام کو عملًا نافذ کر کے لوگوں کو صحیح معنوں میں اس شبکشانہ حقیقی کا بندہ اور غلام بنایا۔ اور قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس منادی کو ان کلمات مطیبات میں ادا کیا ہے:-

”وَمَبِشِّرُوا بِرَبِّ مُؤْلِيَاتٍ مِّنْ أَنْعَدِي أَنْمُهُ أَحْمَدُ“

”کہ میں بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس رسول کا مژده سنانے والا جو میرے بعد آتا ہے جن کا نام نامی اور اسم گرامی احمد ہے؛“
روٹ، اس حقیقت کی مرید تو ضع انجیل برناس کے واضح اور روشن بیانات سے

ہوتی ہے)

شُبہ کا ازالہ

عیسائی لوگ اس کی یہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ جس بادشاہت کے قرب کی ان عبارات میں بشارت ہے۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قائم ہونے والی بادشاہت ہے۔ جس میں تمام دنیا پر مسیحیت کا دور دورہ ہو گا لیکن یہ تاویل صنیف اور خلاف ظاہر و تبادر ہونے کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے اعلان اور بیان کے بھی خلاف ہے۔

جیسے قبل ازاں بیان ہو چکا ہے کہ آپ نے فریسوں کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہیں کئے گی اور لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یاد ہاں ہے۔ کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی بخفاۓ درمیان موجود ہے۔۔۔۔۔

دلوقا۔ باب ۱۔ (۲۰)

اگر دوبارہ دنیا پر تشریف لانے کے بعد اس کا قیام مراد ہوتا تو جب فریسوں نے پوچھا، یہ بھی بخفا، خدا کی بادشاہی کب کئے گی تو آپ کہہ دیتے کہ میرے دوبارہ ظہور پر۔ لہذا یہ توجیہ اور تاویل قطعاً غلط ہے۔

علاوہ ازاں آپ کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے پر مسیحیت کا دور دورہ ہو گا یا اسلام کا، وہ تو وقت بتلانے گا۔ فی الحال یہ دعویٰ رجم بالغیب اور تخيینہ و انمازوں کے سوا کچھ نہیں۔ جبکہ اہل اسلام تو آپ کی اس آمد کو اسلامی سلطنت اور بادشاہت کا ہی حصہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ آپ آکر اپنا صیحہ مقام واضح کریں گے یعنی عبد اللہ اور رسول اللہ ہونا۔ اور الہیت یا ابن اللہ ہونے سے برادت کا اظہار کریں گے اور دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کیلئے گے اور آنکے نظر میں اگر

Click

خلیفہ اسلام اور خادم نبی آنحضرت علیہ الرحمۃ والسلام کی حیثیت سے ہو گا۔

سوال :-

جب علیئی علیہ السلام کی زبانی ثابت ہو گیا کہ بادشاہی موجود ہے تو چرنی آنحضرت علیہ الرحمۃ والسلام کی بشارت کیسے ثابت ہوئی ہے اور اس کو دنیا میں علیہ السلام کی تعبیر خاک سے کیا تھا؟

جواب :-

اگر علیئی علیہ السلام یہ اعلان فراچکے ہوتے تو ان فریسوں کو اس سوال کی وجہ سے ہی کب پیش آتی کہ خدا کی بادشاہی کب کئے گی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ انتظار میں ہی سمجھنے اور دست کا تعین کرانا چاہتے تھے۔ اور آپ کا اپنا اعلان، حواریوں کا اعلان، اور شاگردوں کا اعلان اور ہم کی دعائیں اور حضرت علیہ الرحمۃ والسلام کا اعلان، یہ سمجھی مستقبل میں بادشاہت کے قائم ہونے پر ہی دلیل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ پھر اس میان میں اور اس اعلان میں تناقض و تعارض لازم کئے گا زیر مصنفین انجیل کے باعث میں ہاتھ کا کھیل ہے۔ صرف ایک جگہ نہیں بیسیوں جگہوں میں عہد جدید بلکہ قدیم میں بھی تعارض و تناقض موجود ہیں۔ جس کے چند نمونے "عیسائی نہ ہے" مولفہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رحمہ اللہ میں دیکھیے جا سکتے ہیں۔

نیز جب حضرت دانیال اور حضرت یسیاہ، حضرت زکریا، حضرت جبقوق کے ارشادات اور انجیل برنساں کے بیسیوں اقتباسات سے محمد بن عبد الرحمن علیہ الرحمۃ والسلام کی سلطنت اور بادشاہ کی خوشخبری کا ثبوت واضح طور پر ملتا ہے۔ تو اس تعارض کو فتح کرنے کی یہی صورت متعین ہو جائے گی کہ ان اعلانات میں بنی اسرائیل میں علیہ الرحمۃ والسلام کی بشارت ہے

Click

۱۳۱
اور یہ قول لوقا صاحب کی ایجاد و اختراع ہے اور ہم نے تو اس کو بطور اذام ذکر کیا ہے لہذا اس سے ہمیں اذام دینے کا کیا مطلب۔

آئیے اب اس ملکوت سعادی اور شہنشاہیت کا تذکرہ زبور شلف سے ملاحظہ فرطاتے جائیں۔



http://t.me/Tehqiqat

Click

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

رِبُورِ شریف میں بشارت متعلق پہلے سلطنتِ مصطفیٰ

علیہ التحیۃ والشاد

”میں کس لیے طیش میں ہوں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے میمع کے خلاف زمین کے بادشاہ صفت آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آدمیں ان کے بندھن توڑا لیں اور ان کی رسیاں اپنے اور پرے ائمہ پیش کیں۔ دہ جو آسمان پر تخت لشیں ہے ہنسنے گا۔ خداوندان کا مفعکہ اڑائے گا، تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کرے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کو و مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں۔ میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹل ہے۔ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے مجھے بخششوں گا، تو ان کو لو ہے کے عصا سے توڑے گا، کمھار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چوڑ کرے گا۔ الخ“ رزبور نکتاب اول۔ باب ۲، آیت ۱۹)

میسیحی برادری کے نزدیک داؤد علیہ السلام نے اس قسم کے فرمودات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بشارات ذکر کی ہیں۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بشارات بھی صرف بنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سمجھی آتی ہیں۔ قوموں نے جن کے

Click

خلاف اتحاد کیا اور ان کی بُرھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئیں اور اس نور کو بچانے کی سر توڑ کوشش کی۔ وہ فور راستِ مصطفیٰ^۲ اور نویں اسلام ہے جس کے خلاف عرب کے قبائل جمع ہوئے۔ مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیے رکھا اور بالآخر ذات و رسولی کے ساتھ دُم دبا کر بجا گئے پر مجبور ہوئے اور بغیر جنگ و ہجہال کے اللہ تعالیٰ نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرتِ فتح اور غلبہ و کامرانی عطا فرمائی اور آپ نے اعلان فرمادیا کہ کفر کی ہمارے خلاف یہ آخری یلغار ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی ہم پر حملہ اور ہونے کی جرأت نہیں کری گے مدینہ کے یہودیوں نے بھی اس دہان قبائلِ عرب کا ساعتہ دیا تھا اور اپنے سب عہدوں پہمان توڑ ڈالے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ حرف پورا ہوا۔

”بِرْيُيدُونَ آنْ تُطِقُّنُوا نُورَ اللَّهِ يَا فُؤَادِهِمْ دَالِلَّهُ مِتَّهُمْ نُورَهُ
وَتَوَكِّرَهُ أَنَّكَا قِرْدُونَ“

اللہ تعالیٰ نے سخت آندھی بیج کر ان کو بدحواس اور پریشان کر دیا اور بالآخر ایک ایک کے بہودا اور دیگر قبائل کو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کے عصایقی توار سے توڑ ڈالا۔ اور چکنا چور کر دیا۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن

پھونکوں سے یہ چماغ بجھایا نہ جائے گا

مزید تفصیلات کتب معاذی و تواریخ میں دیکھی جا سکتی ہیں لیکن جب ہم حضرت عینی علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو بجا ہے اللہ تعالیٰ کے ان قوموں پر ہنسنے اور ان کا مضمکہ اڑانے کے میں تو وہ قومیں ان پرستی اور ان کا مذاق اڑا ق نظر آتی ہیں اور بجا ہے اس کے کہ حضرت مسیح ان کو لوہے کے عصا سے توڑتے، انہوں نے حضرت عینی علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا اور انہوں میں منہیں گاڑیں، پہلوں کو نیزوں سے چھید ڈالا۔ جس کا تفصیلی تذکرہ فنظر نواز [Click](#) کے لئے کام لے دیا ہے اور بترجمہ کے شکر مشہر

سے بالا تر ہے کہ اس بشارت اور پیغمبر نبی کا مصدق سید عرب دعجم صلی اللہ علیہ وسلم
ہی ہیں ۔

سوال

اس بشارت میں تو مسیح کا نام صراحت سے موجود ہے لہذا اس سے مراد محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر ہو سکتے ہیں ؟

جواب

عہد قدیم و جدید کی کتابوں میں اس نبی و رسول کو جس کی بشارات لوگوں کو سنانے
کے لیے انبیاء رضی اللہ عنہم السلام ماہور تھے، مسیح کے لقب سے یاد کیا گیا ہے مثلاً یوحنانے
قید خانہ سے اپنے دشائکو جمع کر آپ سے دریافت کیا، کیا آنے والا مسیح نوہی ہے یا
ہم دوسرے کی راہ پر کھیلیں۔ علی ہذا القیاس، کئی مقامات پر یہ اطلاق موجود ہے تو اس سے
فقط عیسیٰ علیہ السلام مراد لیا جانا درست نہیں اس یہ تمام یہود اجتماعی طور پر اس
استظفار میں تھے کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لایں گے تو ان کے حلقة غلامی میں داخل
ہوں گے اور جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح لیعنی پیغمبر آخر الزمان سمجھتا تھا۔ وہ
اس کو اپنی عبادت گاہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے دیتے تھے۔ اور اندر آ جاتا تو دعکے
دے کر اور بے عزت کر کے نکال دیتے تھے۔ ملاختہ ہو یوحننا باب ۹ - ۲۲ ۔

”یہودی ایکا کرچے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ

پسے خارج کیا جائے“

اور اسی انجلیل یوحننا باب ۷ - ۲۴ پر مرقوم ہے ۔

”کیا سولاروں نے پچھے جان لیا کہ مسیح ہی ہے ؟ اس کو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے“

Click

مگر میں جب کئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے؟"

باب ۷ - ۳۱ پر یوں مرقوم ہے

"مگر بھیرپیں سے بھرے اس پرایاں لائے اور کہنے لگے کہ میں جب آئے گا تو کیا اس سے زیادہ میحرنے کا نی گا جو اس نے دکھائے؟"

اور آیت ۰۳ باب ۷ پر اس طرح مذکور ہے:-

"پس بھیرپیں سے بعض نے یہ باتیں سئی کہ کہا بیشک یہی وہ نبی ہے اور انہی کہا یہ میں ہے اور بعض نے کہا کیوں؟"

اور یو خا باب ۶ - ۲۱ میں اس طرح دارد ہے:-

"پس جو مجزہ اس نے دکھایا وہ لوگ اس کو دیکھ کر کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا، فی الحقيقة یہی ہے:-"

باب ۱۰ - ۲۳ میں اس طرح مذکور ہے:-

"پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تھا تک ہمارے دلوں کو ڈازال ڈول رکھے گا، اگر تو میں ہے تو ہم سے صاف کہہ دے؟"

الفرض میں کا لفظ ان کتب میں پینتھر آخراً زمان کے یہے استعمال ہوا ہے، نہ کہ بالخصوص حضرت علیہ السلام کے لقب کے طور پر اور ہم اہل اسلام آپ کو جو میں نتے ہیں تو مستقل مقام نہ ہونے بلکہ ہر وقت سیر و سفر میں رہنے کی وجہ سے یا ماہِ لگا کر بیماری کو شفا یاب کرنے کی وجہ سے، لہذا یہ الگ اصطلاح ہے اور تورات و انجیل کی اصطلاح الگ ہے۔ بلکہ قبل ازیں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت علیہ السلام نے بایس معنی میں ہونے کا اعلان نہ خود کیا اور نہ شاگردوں کو اس کی اجازت دی۔

ملاحظہ ہوا نجیل لوقا باب ۹ - ۲۱

"اس نے ان سے کہا یہ کہ تم مجھے کیا کھانا کھائیں؟" طہر نے جواب میں کہ کھانا میں

اس نے ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہنا۔

انجیل متی باب ۱۶ - ۱۲۰

”اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں میع ہوں۔“

بلکہ انجیل برنسیس میں میع ہونے کا صاف انکار ہے۔ اور صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار آپ نے اس کا انکار کرنے کے بعد فرمایا میں تو ان کی جو تین کاتسہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔

سوال

اس بشارت میں تو یہ تذکرہ ہے کہ ”میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کو مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں۔“ اور صیون تو کہ کمرہ یا مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ عرب میں بھی نہیں ہے۔ لہذا اس کا مصدق بنی عرب کیونکر ہو سکتے ہیں؟

جواب

رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ملک عرب کے ساتھ مختصر نہیں بلکہ بخت نصر اور قیصر و کسری کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے اس لیے اس بشارت میں فلسطین و کنعان کا علاقہ بلکہ عراق و شام وغیرہ کا علاقہ بھی شامل ہے۔ اور اس میں بنی اسرائیل کے لیے سرزلش ہے کہ میں نے مختاری حکومت ختم کر کے اس کو بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ جس طرح کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد جنگ احزادے پیلے خدق کھودنے کا حکم دیا اور جب ایک سنت پتھرخوداہ ہزا جو صحابہ کرامؓ سے نہ ڈٹ سکتا تو آپ سے عرض کیا۔ آپ نے اس پر تین ضریبیں لگائیں۔ ہر دفعہ ایک تہائی حصہ اس مررت کا، طبعہ ستاگا اور دفعہ بسم اللہ یزدھ کر ضریب لگائی اور شعہ

Click

برآمد ہوا تو آپ نے کہا: "آللہ اکبر اعظمیت مَعَادِ تَبَغَّ الشَّام - اللہ اکبر مجھے ملک شام کی چابیاں دے دی گئی ہیں۔ دَاللَّهِ إِنِّي لَا بُصُرُ قُصْدَرَهَا الْحُمْرَاتَ عَةً۔
بندہ میں اب اس کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں" ॥

دوبارہ مارا اور اس کی دوسری تہائی ریت کی طرح یہ گئی اور ایک شعلہ برآمد ہوا تو آپ نے فرمایا: "آللہ اکبر اعظمیت مَعَادِ تَبَغَّ فَارِسٌ دَاللَّهِ إِنِّي لَا بُصُرُ وَالْقَصْرُ الْأَبْيَعُ مِنِ الْمَدَائِنِ - اللہ اکبر! مجھے ملک فارس کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور بندہ میں اب مائن کا کسر دی قصر ابیع دیکھ رہا ہوں" ॥

تیسرا مرتبہ هرب لگائی اور بقیہ تہائی کو ریزہ ریزہ کر دیا اس سے بھی شعلہ برآمد ہوا تو آپ نے فرمایا: "آللہ اکبر اعظمیت مَعَادِ تَبَغَّ الْيَمَنِ دَاللَّهِ إِنِّي لَا بُصُرُ وَ آنُوَّابٌ مُّنْعَذَةٌ مِنْ مَكَانِهِ هَذِهِ السَّاعَةَ - اللہ اکبر! مجھے میں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میں اس وقت اپنی اس بجھ سے صنوار کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں" اس موقع پر مخالفین نے ازراء طعن و تشنیع کہا تھا، عجیب بات ہے ایسے کھر میں رہنا دو بھر ہونا ہے اور جائیں ہلقوم تک پہنچنے کی ہیں۔ مگر دعوی فارس، شام اور یمن کی چابیاں ہاتھ آنے کا کیا جارہا ہے اور کہا "مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا" یہ وعدہ سارہ دھوکا اور فریب دہی ہے۔ لیکن چشم فلک نے اس غبی خبر کی صداقت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کسری سے، شام تیمر سے چین کر اعلانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔

اس ضمن میں قیصر دمہرقل کا دہ بیان جو جانب ابوسفیان سے منقول ہے، اور ان کے ساتھ ہرقل کی دہ گفتگو جو اس وقت ہوئی جب وہ بیت المقدس کو کسری سے دوبارہ حاصل کر چکا تھا اور اس نفع کی خوشی میں پیدل حل کر بیت المقدس میں حاضر ہوا اور اسی

Click

خط دیا۔ اس نے عرب تجارت کا پتہ لگانے کا حکم دیا۔ ابوسفیان بعہ اپنے ساتھیوں کے اس کے پاس لے گئے۔ اس نے طویل مذاکرہ میں مختلف سوالات کیے اور بالآخر ان سے کہا۔

”ان یکن ما قدت حقاً فیو شک ان یملک موضع قدامی هاتین دالله لو اعلو اني اخلص اليه لتجشیت لقادره دلوکنت عنده لغلت عن قد مید“
 دیہ جو کچھ تو نے بیان کیا اگر درست ہے تو عنقریب وہ میرے قدموں کے نیچے والی جگہ کے مالک بن جائیں گے۔ بخدا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اپنے اراکین سلطنت سے بچ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں تو مفردان کے پاس حاضر ہونے کی کوشش کرتا اور اگران کے پاس ہوتا تو ان کے قدم دھویا کرتا۔

یہ جانب ابوسفیان کے ساتھ اس وقت کا پیش آنے والا واقعہ ہے جبکہ وہ حلقةِ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لہذا نہ ان کی طرف سے ہرقل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آرائی کر کے دھوکا دینے کا گمان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہرقل کے رد عمل میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی کا تصور کیا جا سکتا ہے اور کچھ بھی ہو واقعہ اور حقائق نے اس توہم کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ کیونکہ اسرائیل کے تمام مقاماتِ مقدسہ مجموعی طور پر تیرہ سو سال بھی زیادہ عرصہ تک اہل اسلام کے زیر تصرف رہے اور حضرت مہدی کے دور میں انشاء اللہ پھر یہ علاقہ اہل اسلام کے ہاتھوں میں ہو گا۔

آئیے ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہی اس کا فیصلہ کر ایس کر یہ مصدق کس کی مملکت میں شامل ہو گا۔

انجیل لوقا باب ۱۹-۳۲ پر مرقوم ہے۔

”جب نزدیک آگر شہر کو دیکھا تو اس پر روپا اور کہا، کاش کر تو اپنے اسی دن میں

Click

سلامتی کی باتیں جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن اب تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گیروں میں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اولاد تیرے بچوں کو جو تجھے میں ہیں زمین پر ہے پیکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر نہ پھر کو باقی نہ چھوڑیں گے اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی ۔

ڈاکٹر بیکی صاحب نے تواریخِ باشیل میں اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ ان آیات میں حضرت عزرائیل کے فتحِ یہودشہم اور ہیکل کی جگہ مسجد صخرہ کی تعمیر کی طرف اشارہ ہے اور ردیٰ نتوحات کے ملاوہ اہل اسلام کا تستطیعِ میسیح کی نظر میں گھوم گیا۔ صفحہ ۱۶، ۱۵ ملاحظہ کریں۔ اس کی مزید تصدیق و تائید بھی حضرت یسوعیاہ علیہ السلام کے مکہ مکرمہ کے متعلق مفرد و ادلیثاڑوں سے عنقریب ذکر کی جائے گی۔

جوابِ دیکر

ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ مکہ مکرمہ پر صیون کا اعلان درست نہیں بلکہ حضرت یسوعیاہ علیہ السلام کے کلام میں مکہ مکرمہ کے متعلق مذکور ہے:-

”اور وہ تیرانام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا صیون رکھیں گے“ (باب ۴۰-۴۱) لہذا یہ بہانہ بھی لغو اور ناقابل اعتبار والتفات ہے، تفصیلی عبارت بعد میں ذکر کی جائے گی جس کو دیکھ کر ہر منصف پکارائیں گا کہ یہ بشارت صرف مکہ مکرمہ کے لیے ہے اور وہی خداوند کا شہر اور قدوس رب کا صیون۔ والحمد للہ علی ذلک ۔

امرتِ اہمیتیہ عربیہ کی بشارت

پولس رسول کے روایوں کی طرف لکھے ہوئے خط سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ وہ لکھتا ہے:-

«موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں ایک نادان قوم سے تم کو خصہ دلاؤں گا۔ پھر پیغمبر ایک بہت دلیر ہو کر یہ کہتا ہے کہ جنہوں نے مجھے نہیں ڈھونڈا انہوں نے مجھے پالیا۔ جنہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا ان پر میں نظر ہو گیا۔ لیکن اسرائیل کے حق میں یوں کہتا ہے کہ میں دن بھر ایک نافرمان (اور جنتی) امت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا رہا۔ ربaber ۲۰، ۱۹۔

اول یہ بات متارج و صاحت نہیں کہ عرب لوگ آسمانی علوم سے بے جراحت ہونے اور توہم پستی میں بتلا ہونے کی وجہ سے کوئی معتقد ہے قوم نہیں سمجھی جاتی تھی اور ان کی نادانی اور جہالت معروف و مشہور تھی اور بُت پستی میں منہک ہو کر انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے متعلق نہ دریافت کیا اور نہ ہی اس کو پایا۔ جبکہ بنی اسرائیل میں یکے بعد دیگرے انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت میں کوشش رہے اور انھیں اللہ تعالیٰ کی راہ بتلاتے رہے اور انھیں خدائے تعالیٰ سے رد شناس کرنے میں کوشش رہے لہذا یہاں جلاشک و شبہ اس قوم سے مراد قوم عرب ہے جن کو

۱۵۱

اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذریعے اپنا تعارف کرایا اور ان پر ظاہر ہوا اور جنہوں نے اسے پایا۔ اور پیران کو سلطنت و حکومت عطا کر کے اور زمین کے اطراف را کناف میں ان کی حکومت کو وسعت دے کر بنی اسرائیل کو غم و غصہ دلا یا۔ اور حسر و عناد کی آگ میں جلایا اور ان کو کیے بعد دیگرے جلو وطنی اور حیرانی دیر گردانی میں بستلا کیا اور حلقة اسلام میں داخل ہونے یا اہل اسلام کا باج گزار ہونے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ چھوڑا اور ان سے نفرت و بیزاری کا انہما کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جتنی اور نافرمانیں۔ اہم اس نے ان کو ٹھکرایا ہے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو اپنی نگاہ و لطف و کرم سے فراز ہے۔

لہذا موئی علیہ السلام اور یسیاہ علیہ السلام کے ان ارشادات میں بھی سرویرہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت و سلطنت اور اسلام کی بادشاہت کا واضح بیان موجود ہے۔ اور وہی مقام اسرائیل کے تمدن کا میون ہے جن جگہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے۔

۔

دہی ہے طور جہاں پڑ کئی نگاہ تیری
دہی چمن ہے جہاں مُسکرا دیا تو نے

اور زبور شریف سے پیش کردہ بشارت کا یہ جملہ بالکل واضح ہو گی " میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری محکیت کے لیے تجھے بخشوں گا ۔ کیونکہ غیرت دلانے اور غم و غصہ کی آگ میں جلانے کا اہم سبب ہی ہے اور لو ہے کا عصا جو اپ کے ہاتھ میں دیا گیا وہ تلوار ہے جس کے ذریعے دشمنوں کو تہس نہس کیا گیا۔ اور اس میں شک دار تیاب کی کس کو گنجائش ہو سکتی ہے کہ حکومت اور سلطنت عطا کی گئی تو رسول مخلص صلی اللہ علیہ وسلم کو ، اور تلوار و جہاد کے ساتھ بھیجے گئے تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام جنہوں نے فرمایا کہ

Click

کوئی ایک گال پر تھپڑا سے تو دوسرا بھی اس کے سامنے کر دو۔ وغیرہ وغیرہ اور خود سمل پر
چڑھا دیے گئے اور بالا خرپکار پکار کر کہا۔ ”ایے میرے خدا! تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔
داؤ د علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان
علیہ السلام کا اعلان سماعت فرماتے جائیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آنے والا بادشاہ
بادشاہوں کا بھی سردار و آقا ہے اور ان کے دلوں کی آنسو۔



http://t.me/Tehqiqat

سليمان علیہ السلام کی ایشارت سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

تھے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور شاہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرماد۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور الفافات سے تیرے غربیوں کی عدالت کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھیل پیدا ہوں گے وہ ان لوگوں کے غربیوں کی عدالت کریگا وہ محتاجوں کی اولاد کو پچھئے گا اور خالم کو ٹھکرائے ہمکرے کر دے لے گا جب تک سورج اور چاند قائم ہیں لوگ نسل درسل سمجھ سے ڈلتے رہیں گے۔

وہ کٹی ہوئی گھاس پر نینہ کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہو گا اس کے ایام میں صادق بہرہ مند ہونگے اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن ہو گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہو گی۔ بیان کے دہنے والے اس کے آگے جگیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیں کے اور جزیروں کے بادشاہ نذریں گزارنیں گے۔ سب اور سیا کے بادشاہ ہے لیے نامیں گے بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سر نگوں ہوں گے۔ کل قومیں اس کی طبع ہونگی لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے وہ دن بھرا سے دعاء میں گے اس کا نام ہمیشہ قائم ہے گا۔ جب تک سورج ہے اس کا نام ہے گا اور لوگ اس کے دید سے برکت پائیں گے اس تو میں اس کو خوش نصیب کروں گے (فرمودا)

ارضِ حجاز اور مکہ مکرمہ کے متعلق بشارات

حضرت یسوعاہ علیہ السلام نے اس تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دی :-

”لے بانجھ! تو حبے اولاد تھی نفر سرائی کر، تو جس نے ولادت کا درد برداشت نہیں کیا، خوشی سے گا اور زور سے چلا۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شر سروالی کی اولاد سے زیاد مہے، اپنی خمہ گاہ کو وسیع کر دے، ہاں اپنے مسکنوں کے پردے پھیلا اور یعنی نہ کر اپنی ڈوریاں لمبی اور اپنی میخیں مغبوط کر اس لیے کہ تو داہنی اور بائیں طرف بڑھے گی اور تیری نسل قوموں کی دارث ہوگی اور دیران شہروں کو بسائے گی۔ خوف نہ کر کیونکہ پھر تو پشیمان نہیں ہوگی۔ تو نہ گھبرا کیونکہ تو پھر رُسوانہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی عار کو پھر پا دنے کرے گی۔ کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے اس کا نام رب الافواح ہے اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے وہ تمام روئے زمین کا خدا اکھلائے گا۔

کیونکہ تیرا خدا فرماتا ہے کہ خداوند نے بتجھ کو مرتود کہ اور دل آزدہ بیوی کی مرح ہاں جوانی کی مطلوقہ بیوی کی مانند پھر بلایا ہے۔ میں نے ایک دم کے لیے بتجھ چھوڑ دیا لیکن رحمت کی فراوانی سے بتجھ لے لوں گا، خداوند تیرا بنجات دینے والا فرماتا ہے کہ میں نے قہر کی شدت سے ایک دم کے لیے بتجھ سے منہ چھپایا پر اب میں ابدی شفقت

Click

اس فرمودیں حضرت سیہان علیہ السلام اپنی اور اپنے والدگرامی کی مرح سرائی تو کرنیں رہے جیسے کہ ظاہر ہے کہ سب صیغے غائب اور مستقبل کے ہیں اور حضرت عینیٰ علیہ السلام نہ بادشاہ بنے اور نہ ہی شہزاد تھے، لہذا وہ ہستی جو سرا پار حمت و کرم بن کر دنیا پر ظہور فرم ہوتی، جلد عالم کے لیے بالعلوم اور اہل ایمان کے لیے بالخصوص اور جنہوں نے دورانِ جنگ بھی بچوں عورتوں اور بُرھوں سے تعریف اور چھیر چھڑا اور ان کے قتل و ایذا کو باکل ممنوع ٹھہرایا وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، انھیں کی حکومت بحرا و قیانوس سے بھر ہند تک اور دریائے فرات سے انتہا تھے زمین تک قائم ہوئی۔ شاہانِ رُوئے زمین نے آپ کے حصہ ہے اور تھائے بھیجے جیسے موقع اور ہر قل قیصر دم دغیرہ نے اور بھی بادشاہ آپ کے سامنے مز़نگوں ہوئے اور عراق، شام، مصر بلکہ اندلس وغیرہ کے لئے دالے بھی ان کے حلقة، غلامی میں آئے۔

لوگ نازوں میں اور ان کے علاوہ ہر وقت ان کی ذات والا صفات پر درود وسلام بیکتے رہتے ہیں اور ان کے ہی دلیل جلیلہ سے دنیا و آخرت میں ہر ایک برکت اور حمت حاصل ہوئی۔ حضرت عینیٰ علیہ السلام کے حق میں ان بشارات کا انطباق کسی طرح بھی موزوں نہیں بتا لہذا یہ بھی صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔



Click

سے تجھ پر رحم کروں گا۔ کیونکہ میرے لیے یہ طوفانِ نوح کا سامعاملہ ہے کہ جس طرح میں
نے قسم کھائی تھی کہ چھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہیں آئے گا اسی طرح اب میں نے قسم
کھائی ہے کہ میں تجھ سے چھر زمین آزدہ نہیں ہوں گا اور تجھ کو نہ جھٹکوں گا۔

خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹیکے ٹل جائیں
لیکن میری شفقت تجھ پر سے کبھی نہیں جاتی رہے گی۔ اور میرا پس کا عہدہ ٹھنڈے گا۔ اے
مصیبت زده اور طوفان کی ماری اور تسلي سے محروم! دیکھ میں تیرے پتھروں کو سیاہ
رینختہ لگاؤں گا اور تیری بنیاد نیم سے ڈالوں گا۔ میں تیرے کنکروں کو لعلوں اور تیرے
چھامکوں کو شب چراغ اور تیری سدی فصل بیش قیمت پتھروں سے بناؤں گا۔

تیرے سب فرزند خداوند سے تعییم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی
نور استیازی سے پائیدار ہو جائے گی، اور ظلم سے دور رہے گی۔ کیونکہ تو یہ خوف ہوگی
اور دہشت سے دور رہے گی کیونکہ وہ تیرے قریب نہ آئے گی۔ ممکن ہے کہ وہ کبھی کٹھے
ہوں پر میرے حکم سے نہیں، جو تیرے خلاف بجمع ہوں گے وہ تیرے ہی سب سے
گریں گے..... کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہیں آئے گا اور جو
زبانِ عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم مٹھرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں
کی میراث ہے اور ان کی راستیازی مجھ سے ہے (یسیاہ باب ۵۲)

اسی طرح یسیاہ کے باب ۶۰ پر بھی کعبہ مبارکہ کے متعلق بڑی وضاحت کے

سانحہ اشارت موجود ہے۔ عبارت ملاحظہ ہو:-

”اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آگیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا کیونکہ دیکھ تاریکی
زمیں پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طارع ہو گا اور اس کا جلال
تجھ پر نمایاں ہو گا اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی
نجیلی میں چلیں گے۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھو، وہ سب کے سب اکٹھے

Click

ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹھے دورے سے آئیں گے اور تیری بیٹھوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے تب تو دیکھے گی اور منور ہو گی۔ ہاں تیرا دل اُچھے گا اور کشادہ ہو گا۔ کیونکہ سخندر کی فرادافی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہو گی اونٹوں کی قطار میں اور مدیان اور عیفہ کی سانڈنیاں آگ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی۔ دہب سبا سے آئیں گے اور سونا اور بان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔

قیدار کی سب بھیریں تیرے پاس جمع ہوں گی، نبایوت کے پینڈھے تیری خست میں حاضر ہوں گے۔ وہ میرے مذکور پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شکست کے گھر کو جال بخشوں گا۔ یہ کون میں جو بادل کی طرح اڑتے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کاک کی طرف؟

یقیناً جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور تم سیس کے جہاز پہلے آئیں گے کہ تیرے بیٹھوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دورے سے خداوند تیرے خدا، اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لئے آئیں۔ کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے اور بیگانوں کے بیٹھے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمتگزاری کریں گے۔

اگرچہ میں نے اپنے قہرے تجھے مارا۔ پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کر دوں گا۔ اور تیرے پھاٹک بھینٹھ کھلے رہیں گے وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں۔ کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیرے کے خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی۔ ہاں وہ قومیں باکل ہلاک کی جائیں گی۔ تیرے غازی ہمروں کے بیٹھے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے اور تیری سیکر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گئے اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر

اسرائیل کے قدوس کا صیون رکھیں گے۔

اس یہے کہ تو ترک کی گئی اور سمجھ سے نفرت ہوئی، ایسا کہ کسی آدمی نے تیری طرف گزر بھی نہیں کیا۔ میں سمجھے ابدی فضیلت اور پشت در پشت کی شادمانی کا باعث بناؤں گا تو قوموں کا دودھ بھی پی لے گی۔ ہاں بادشاہوں کی چھاتی چو سے گی اور تو جانے گی کہ میں خداوند تیرانجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرافدیہ دینے والا ہوں۔ میں پستیل کے بد لے سونا لا دُل گا اور لو ہے کے بد لے چاندی اور نکڑی کے بد لے پستیل اور پتھروں کے بد لے لو ہا۔

اور میں تیرے حاکموں کو سلامتی اور تیرے عاملوں کو صداقت بناؤں گا۔ پھر کبھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہو گا۔ اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی اور بربادی کا۔ بلکہ تو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے چھا ملکوں کا حمرہ رکھے گی۔ پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہو گی نہ چاند کے چمکنے سے، بلکہ خداوند تیر ابدي نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہو گا۔ تیرا سورج کبھی نہ ڈھنے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہو گا کیونکہ خداوند تیرا ابدي نور ہو گا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے اور تیرے لوگ سب کے سب راست باز ہوں گے۔ وہ اب تک ملک کے وارث ہوں گے۔ یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو۔

سب سے چھوٹا ایک ہزار ہو جائے گا اور سب سے حیرا ایک زبردست قوم میں خداوند عین وقت پر یہ سب کچھ جلا کر دے گا۔ (یسیاہ باب ۶۰)

تہصیرہ

۱۔ جس چگہ کو اللہ تعالیٰ نے بانجھا اور بے کس چھوڑی ہوئی سے تعبیر کیا ہے دو کہ مکرمہ کے علاوہ کوئی چگہ ہو سکتی ہے جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام جو اس چگہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنے کے ساتھ مأمور ہوئے ان کے

Click

بعد اس میں کوئی مبسوٹ نہ ہوا۔ جبکہ بیت المقدس میں کیے بعد و گیرے انبیاء علیہم السلام تشریعت لاتے رہے، لہذا اس بائیخادر بے کس کو نبی آخر الزمانؐ کی آمد و بعثت کا مژده سنایا گیا۔ اور اس کو سب سابقہ درد دوں اور دکھوں کے مدوا اور ابدی راحت اور خوشی اور امن و کون کا مژده سنایا گیا ہے۔ قوموں اور سلاطین کا مر جمع بلکہ ملجا اس کو قرار دیا گیا۔ اور مدیان و عیفہ کے اذشوں اور سانڈنیوں کی قطاروں کا اس کی طرف رواں دواں ہوتا۔ اور یہی مفہام میں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

”دَإِذْ جَعَلْنَا أُبَيْتَ مَثَابَةً لِّلَّتَّا إِنْ دَأْمَتْ“ راس وقت کو یاد کر جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جانے بازگشت اور مقام امن بنایا) و قال تعالیٰ :-

”أَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْمُحَجَّمِ يَا تُوكَرِ رِجَالًا وَ عَلَى سُكْلٍ صَامِرٍ تَيَامٌ تِينَ من سُكْلٍ كَيْتَهُ عَمِيقٌ“ (ایے میرے خلیل! (تمیر کعبہ کے بعد) لوگوں میں جع کے لیے اعلان کرو، وہ آپ کے پاس پہلی اور ہر دبلي پتلی اذشنا پر سوار ہو گوگہ بھری گزر گما ہوں سے حاضر ہوں گے)

اور چونکہ بلا نے پڑائیں گے لہذا بتیک اللہ حوالتیک لا شریک لک ان الحمد والنعمۃ لک دا ملائک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے اور اسی تلبیہ و تمجید کو عہد قدیم میں ”اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے“ سے تعبیر کیا۔

۲- قربانی کے جانوروں کا قیدار اور نیا یوت کے یہندھوں اور بھیڑوں کی صورت بآنا بھی صرف کہہ تکرہ میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان کا بیت المقدس کے مذبح پر اپنے جانوروں کو لے جانے کا سوال ہی پڑا نہیں، ملکتہ اسلام کو اپنے سکھانے سکے کے اسے اپنی کے

جانور کو لے جانے کا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ اگر یہ نسلی مطلوب ہو کہ بنایوں اور قیدار
حضرت اسماعیلؑ کے فرزند تھے تو پیدائش باب ۲۵-۱۳ ملاحظہ کریں۔

۳۔ آیا کئی شخص یہ ثابت کر سکتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے علاوہ کسی مقدس مقام
میں مغض اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی حمد کی خاطر لوگ اس کثرت سے حاضری دیتے
ہوں اور اس قدر قریانیاں پیش کرتے ہوں اور اقوام عالم اور ان کے سالیں معروف
طواف اور حج و ذکر باری ہوں اور بیت الہدی دہ مقدس جگہ ہے جہاں کی حاضری
موجب نجات و خلاص ہے اور حج کے بعد تمام گناہ معاف ہو کہ حاجی یوں ہو جاتا ہے
جیسے آج لے مال نے جنم دیا ہو۔

۴۔ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کی کہیں اس اہتمام سے تعمیر اور توسعہ ہوئی اور ہجرتی
ہے تو وہ بیت اللہ شریف ہے۔ بیت المقدس کی ہیکل نظروں سے اوچھل ہوئے تو
دو ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہوا۔ اب بھی وہاں مسجد اور عبادت گاہ ہے تو اہل اسلام
اور خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی تیار کردہ لہذا اس بشارت میں
قطعًا بیت المقدس کا تعمیر ہونا مراد تھیں۔

۵۔ جس جگہ کا بخت واقبال سلامت اور اس کی روشنی ابدی ہے تو وہ بھی بیت اللہ
شریف ہی ہے کیونکہ بیت المقدس سے یہود اور نصاریٰ کی تعلیمات اور شریعت کو
رخصت ہوئے دو ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا بلکہ وہ تو ان بیانات علیہم السلام اور
با الخصوص عینی علیہ السلام کا مذبح بن کر رہ گیا اور دوسری اقوام کے سلطنت میں رہا۔ یا
پھر اہل اسلام کے زیرِ انتظام۔

۶۔ اسی طرح ”سب سے چھوٹا ایک ہزار ہو جائے گا اور سب سے حیر ایک
زبردست قوم“ کی بشارت بھی قریش اور غلامانِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق
آتی ہے کیونکہ یہ لوگ اُمیٰ ہونے کی وجہ سے کسی عزت و قدر کے مستحق نہیں کہ جائے

Click

تھے لیکن معین حکمت اور معلم امام امکتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے ان کو علم و اخلاق میں اعلیٰ مراتب پر فائز کیا اور جہد و اقامت کا امام بنادیا اور ان میں مذہبی غیرت اور جذبہ جہاد بیدار کرنے کے ناقابلٰ تسلیم قوم بنادیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جنگ و عدال اور بنی اسرائیل کے خلاف برداؤز مار ہنسنے کی وجہ سے بہت کم تعداد میں رکھی تھی۔ لیکن بعازاز اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ بڑھادیا حتیٰ کہ بنی اسرائیل ان کے مقابل قلیل ترین نظر آنے لگے۔

یسیاہ باب ۲۱۔ ۲۲۔ پر بنی قیدار کی قلت کا بیان اس طرح مرقوم ہے:-

”کیونکہ خداوند نے مجھ سے فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر انہی قیدار کی سادی حشمت جاتی رہے گی اور تیرانہ انوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی قیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یہ فرمایا ہے۔“

لہذا اس حشمت سے محروم اور قلیل تعداد کو بڑھانے اور شان و شکوه اور جاہ و جلال سے نواز نے کا یہاں اعلان کیا گیا ہے اور اس کی صداقت کی بھی صاحب بصیرت اور صاحب نظر سے پوچھیدہ نہیں ہے۔

اور اس کی مزید وضاحت حضرت یسیاہ کے اس اعلان سے ہو جاتی ہے جو باب ۶۵ آیت ۱ میں مذکور ہے:-

”جو میرے طاب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جنہوں نے مجھے دھونڈا نہ تھا، مجھے پالیا۔ میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی، فرمایا دیکھ میں حاضر ہوں۔“

اور اسی مضمون کو پوس رسول نے زدمیوں میں حضرت مولیٰ علیہ السلام کی زبانی اس طرح نقل کیا ہے:-

”میں ان سے تم کو غیرت دلاؤں گا جو قوم ہی نہیں۔ ایک نادان قوم سے تم کو

غصہ دلاوں کا ” ملاحظہ ہو رہیون باب ۱۰، آیت ۱۹، اور حضرت یسیاہ کے اس قول کو بھی ساتھ ہی نقل کیا ہے ۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ امت عرب یہ تعداد کے اعتبار سے قبیل تھی اور علم و تربیت سے محرومی کی وجہ سے ناقابلِ التقاضات و اعتبار اور وہ خداوند کے نام سے معروف بھی نہیں تھی ۔ صرف بنی اسرائیل اس دور میں دنیا کے اندر خداوند کی قوم کے نام سے معروف تھی لہذا اس عبارت کا مفہوم باسکھل دہی ہے جو قرآن نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے ۔

” هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَّاتِ دِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوُّهُ عَلَيْهِمْ
إِيمَانٌ وَّ يَذَكِّرُهُمْ وَّ يُعَلِّمُهُمْ أِنَّكَتَابَ دَانِحِكْمَةً لَّا دِرَانَ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَقِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ” رَبُّ الْعَزَّةِ ہی وہ ذاتِ
والاشان ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انھیں میں سے
بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک
کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ
کھلی گمراہی میں تھے)

۔ اس رسول کی بعثت سے مکہ مکرمہ میں جو نورِ اسلام ظہور پذیر ہوا اور اس نے مکہ مکرمہ کو روشن کیا اور پھر پورے عالم کو اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ مکرمہ کو خطاب کیا گیا ہے ۔

” اَنْهُ مُنْوَرٌ هُوَ كَيْرَنَكَهْ تِيرَانُورَ آگِيَا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا ”
اور یہی معنوں قول باری ” قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِينٌ ”
کا ہے ۔

اور یسیاہ میں ” قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلطین تیرے ط Louise Click

۱۶۲

کی تجھی میں چلیں گے ” کے اندر عظمتِ رسالت اور شکوہ و حی و اہم کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے، قول باری تعالیٰ :-

”دَاعِيَا إِلَىٰ اللَّهِ بِإِذْنِهِ دَمِسْرَاجًا مُّنِيرًا“ میں وہی مصنفوں بیان کی گئی کہ نبی آخِرِ الزمانؐ کی تعلیم و تربیت اور حکمت و رزش سے قوموں اور ان کے سلاطین کو نور اور روشنی حاصل ہو گی اور اس سراجِ نیر سے سمجھی مستیر و مستقید ہوں گے۔

اور افتابِ نبوت کے طلوع ہی کو ”یکن خداوند تجھ پر طابع ہو گا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہو گا“ سے تعبیر کیا گیا۔ جس طرح کہ آپ کے کوہِ فاران سے ظہورِ رسالت کو استثناء اور حقوق میں ”قدوس کوہِ فاران سے آیا اور وہ کوہِ ناران سے جلوہ گر ہوا“ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔

ملاحظہ ہوا استثناء باب ۳۳-۱، اور حقوق باب ۳-۲۔

اور قرآن مجید میں اسی منصب و مرتبت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے :-

”مَنْ يَطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ“

(جس نے رسول گہامی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی)

”إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ رَبَّهِمْ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ - بَلْ اللَّهُ أَكْفَرَ أَيْدِيهِمْ“

دبے شک جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے)

”وَمَا أَمْبَتَ إِذْ رَمَبَتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى“

رنہیں مارا آپ نے جبکہ مارا آپ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے خود مارا

الفرض دونوں طرح کے مصاہین میں صرف ربان کا فرق ہے، حقیقت میں
کوئی فرق نہیں۔ اور ان بشارات میں صرف مکہ مکرمہ کی فضیلت اور مرکزیت
ہی ثابت نہیں بلکہ صاحب مرکز کی عظمت اور ان کی امت کی عظمت بھی
پوری طرح نمایاں ہے۔

دَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ طَ



http://t.me/Tehqiqat

تکستان کی تمثیل در بیتِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم

کی بشارت

انجیل متنی باب ۲۱۔۳۳، اور انجیل مرقس باب ۱۲۔۱ پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور سلطنت کو ایک تمثیل میں بیان کرتے ہوئے حضرت عینی علیہ السلام نے فرمایا:-

”ایک اور تمثیل سنو! ایک گھر کا ماکہ تھا اس نے تکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھوڈا اور بُرج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکہ پردے کر پر دیس چلا گیا۔ جب بھیل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا بھل لینے کو بھیجا اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کر پیٹا اور کسی کو قتل کیا پھر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجی کر دہ میرے بیٹے کا تولی حافظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہی وارث ہے آؤ اس کو قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں اور اسے پکڑ کر تکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب تکستان کا ماکہ آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟“

انھوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بُری طرح بلکہ کرے گا اور باع کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو مسیح اس کو پھیل دے۔ یہ مرع نے ان سے

[Click](#)

کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سر کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہے اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لے جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی اور جو اس پتھر پر گرے گا انکرے مل کر ٹے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اس کو پیس ڈالے گا۔

اور جب سردار کا ہنوں اور فریضیوں نے اس کی تمثیل سُنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے۔ کیونکہ دو لوگ، اس کو نبی جانتے تھے۔ (آیت ۳۲ تا ۳۷)

اس تمثیل میں باغ انگور سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور انگوری باغ سے مراد شریعت ہے اور اس کے گرد احاطہ اور اس میں حون اور برج محربات اور فرائض واجبات کی طرف اشارہ ہے۔ اور نوکروں سے انبیاء و رسول کی طرف اشارہ ہے اور باغانوں سے مراد قوم یہود اور فلیسی میں جوانبیار و رسول پر تشدد کرتے ہے اور بعین کو شہید بھی کیا۔

کما قال اللہ تعالیٰ "يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ يَعْيِثُونَ حَتَّىٰ"

اور بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو کم ملیع عبد پر اطلاق کیا جاتا ہے، جسے یہود نے بزعم خویش سوی پر لٹکانے کا منصوبہ بنار کھا تھا اس کے بعد جن باغانوں کو یہ باغ سونپا گیا وہ امت امیر عربیہ ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انھوں نے شریعت پر پورا پورا عمل کر کے دکھلایا اور نیک اعمال کا فڑہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہود کو تباہ و بر باد کیا اور ان سے آسمانی بادشاہت لے لی اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خداموں کو دی۔

جس سچھ کو معماروں نے رد کیا تھا وہ Click <http://tinyurl.com/yd2jwzqj> کہ یہود انتہائی حیر

سمجھتے تھے اور وہی لوگ تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیعنی تربیت سے اقوام عالم کے بادشاہی نے اور جو ان سے مکرا یا پاش پاش ہوا اور جس پر وہ ٹوٹ پڑے اس کو پیس کر رکھ دیا اور یہ انقلاب زمانہ اور گردشِ دورانِ محیب تر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر پست قوم کو کس بام عروج پر پہنچایا اور اس قدر بلند مرتبہ کہلانے والی قوم کو کس قدر قدر قدر مرتبت میں گرا یا۔

اس تمثیل سے بالکل واضح ہو گیا کہ سیئی علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے بعد یہود کو تباہ و برباد کر کے آسمانی حکومت دوسری قوم کو دی جائے گی۔ جیسے کلام مجید میں ہے۔

"وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ النُّوْكِرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ"

(هم نے تورات کے بعد زبور میں بھی یہ فصلہ حتمی طریقہ پر لکھ دیا تھا، کہ ارض مقدس کے دارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے) یہاں بھی مستقبل کی خبر ہے کیونکہ یوں ٹھہرا مضارع ہے۔ اور حضرت مسیح کی تمثیل میں بھی مستقبل کے صیغے موجود ہیں لہذا قرآن کی تصدیقِ انجیل نے کر دی اور انجیل کی قرآن مجید نے، اور خلقِ اسلام کا ارض مقدس کا دارث ہزا بھی ثابت ہو گیا اور نگاہ خداوند میں صالح ہونا بھی اور ان کی بادشاہیت دراصل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہیت ہے کیونکہ یہ نائب ہیں اس لیے ان کو با غبانوں کے ساتھ تعمیر کیا گیا جو مسیح علیہ السلام کے بعد اس کام پر مأمور ہوئے۔

اگر اس بشارت میں مذکورہ پیغمبر کو حضرت دانیال علیہ السلام کی بخت نهر کے خواب کی تعبیر میں مذکورہ پیغمبر کے ساتھ ملا کر دیکھو تو یہ حقیقت مزید کھل کر سامنے آجائے گی کہ اس پیغمبر کے اس عظیم سلطنت کو تباہ و برباد کر کر اس کا بھرپور کام کیا جائے۔

Click

گلاد پاش پاش اور جس پر وہ پتھر گردہ آٹے کی طرح پس جائے گا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول گویا حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کی تفسیر ہے اور اس صدر ایقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے علاوہ دوسری امت ہے اور عینی علیہ السلام کے علاوہ دوسرا بھی کیونکہ تمثیل سے یہ بات ظاہر ہے کہ تاکستان کے مالک کافر زند قتل ہونے کے بعد قاتلوں کو تباہ و بر باد کر کے ان کا کام جب دوسروں کو سونپا گیا تو وہ لامحالہ دوسری قوم ہوئے گے لہذا یہود اور بنی اسرائیل جو اس قتل کے مرتكب ہوئے اب ان کا کام ان کے علاوہ دوسری امت کو تفویع کیا جائے گا نہ کہ انھیں کو۔ اور جب بیٹا قتل ہوا تو لا محالہ اب پھر دوسرے لوگوں کو پھل وصول کرنے کے لیے بھیجا جائے گا نہ کہ بیٹے کو اور اس لیے یہودی، سردار کا ہم اور فریضی ان کے خلاف ہوئے کیونکہ وہ سمجھے گئے کہ ہم ان کو قتل کرنے کے وہ پچے ہیں اور یہ بھیں ہی تباہی، بر بادی کی خبر دے رہے ہیں اور ہم سے اس بادشاہت کے چھپن جانے کی۔

لہذا یہ پیشینگوئی قطعاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں ہے، علی الخصوم جب پتھر پر گنے والے کارنیزہ ریزہ ہونا اور جس پر وہ پتھر گرے اس کا پس جانا محفوظ رکھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن عجم یہود و با قرار نصاری انتہائی بے رحمی سے قتل کیا جاتا، تو قطعاً یہ تمثیل آپ پر صادق نہیں آ سکتی۔ علی الخصوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام آں داؤد سے ہیں اور بقول نصاری وہ آپ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ بلکہ آپ کی اوہیت کے قائل تھے تو پھر ان کے اور ان کی قوم کے حق میں کیونکہ کہہ سکتے تھے کہ جس پتھر کو معاروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہے اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ جو کہ جمیشہ سے خدا کی قوم کہلاتی چلی آئی اور اس میں مسلم انبیاء، و رسول مبعوث ہوتے رہے، لہذا یہ تعجب انگیز اور حیرت خیز واقعہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کا مصدق امت امیہ مربیہ کو بنایا جائے اور یہود و

Click

بنی اسرائیل کی عظمت و جلالت اور شان و شوکت اور ان کے علاقوں کا مالک دو اثر ان کو تسلیم کیا جائے اور یہ وہ حقیقت ہے جو چشم فلک صدیوں سے دیکھ رہی ہے۔ لہذا اس کا انکار دو پھر کے سورج کو دھول سے چھپانے کے مترادف ہے۔

ازالہ مشیہ

عیسیٰ برادری اس تمثیل کو بھی حسبِ عادت حضرت علیہ السلام پر محمول کرنے ہیں لیکن ان کی یہ تاویل و توجیہ انتہائی پوچ اور بے سرو پا ہے کیونکہ یہی زندگی کے اختیار سے تمثیل کے ساتھ قطعاً اس کی مطابقت نہیں کیونکہ بیٹھ کے قتل کیے جانے پر مالک نے اگر اپنے باغبانوں کو تباہ و برباد کیا اور دوسرے باغبان مترکے جو باغ کے ثرات اس کو دینے والے تھے اور انھی دوسرے باغبانوں کو اس پتھر سے تعبیر کیا جو اس پر گردادہ پاش پا شہدا اور جس پر وہ پتھر گرا دہ پس گیا۔ لہذا اس باغ کی آبیاری مقتول عیسیٰ کے ذمے گانا تمثیل کے خلاف، اور جو خود مقتول ہو گیا اس کو ایسے پتھر سے تشبیہ دینا واضح البطلان۔

پتھر کلام داد علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کا رد کیے ہوئے پتھر سے تعبیر کیا جانا ممکن ہی نہیں۔ جس نے ان کو انتہائی تعظیم و تکریم سے یاد کیا بلکہ بعد ازاں نصاری اپنا خداوند تسلیم کیا۔

علاوہ ازیں اگر اس پتھر سے مراد حضرت علیہ السلام ہوں تو ان کا اہل دنیا پر غلطی کی صورت میں حدود و تغزیرات قائم کرنا لازم ہے گا جو خود ان کے کلام کے خلاف ہے کیونکہ ان کی تعلیم تو یہ ہے جیسے کہ الجیل متی باب ۳۸-۵ میں مرقوم ہے:-

و تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا آنکھ کے بد لے آنکھ اور دانت کے بد لے دانت ہیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شر بر کا مقابلہ کر دیکھ جو کوئی تھا سے داہنے گاں پر طماںچہ مارے

Click

دوسری بھی اس کی طرف پھیر فے المز" لہذا امتی غریب ان کے پاس ظالموں کے ظلم سے فریاد کب لے جاسکتے ہیں اور وہ ظالموں کے نیست و نابود کیے جانے کی توقع کب رکھ سکتے ہیں۔

اسی طرح انجیل یوحننا باب ۱۲۔ ۳ پر مرقوم ہے:-

"اگر کوئی میری باتیں سنکر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں بھہراتا اور اس کو سزا نہیں دیتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم بھہرائے نہیں آیا بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔" جب آپ دنیا کو مجرم نہ بھہرائیں اور ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچائیں تو پھر آپ کو اس پتھر سے تشبیہ کیونکر دی جاسکتی ہے۔

مرہ گیا یہ تو ہم کہ آپ دوبارہ تشريع لائیں گے تو اس وقت مخالفین کو تہس نہیں کریں گے اول تو یہ توجیہ صحیحی حضرت علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہے کیونکہ آپ انجلی یوحننا کے اس قول کے مطابق جرم کی سزا یومِ اخیر پر موقوف فرماتے ہوئے کہتے ہیں :-

"جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم بھہرائے والا ہے۔ یعنی وہ کلام جو میں نے کیا آخری دن وہی اس کو مجرم بھہرائے گا کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ نے جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھے حکم دیا کہ کیا کہوں اور کیا بوں" انجلی یوحننا باب ۱۲۔ ۳۹۰

لہذا اس جزا و سزا کا آپ نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور یوم قیامت پس کو موقوف بھہرا یا تو دنیا میں ظہوراً اول یا ثانی کسی وقت بھی آپ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دیں تو یہ فرمان غلط ہو جائے گا۔

دوسری وجہ اس تاویل کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ پہلے ظہور پر آپ کی شریعت اس سے مختلف بھہرے گی جس کا پچھے ظہور کے بعد آپ زلمہار فرمادیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ شریعتِ اسلام کے احکام کے مطابق ہوگی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق

جب آپ پہلی شریعت کو ترک کر دیں گے اور اسلامی احکام کے مطابق جرائم کی سزا دینے لگیں تو پھر آپ کا شریعت محمدیہ کا تابع ہونا لازم آئے گا اور پہلی شریعت کا تارک، اور اس صورت میں اسلام اور بانیِ اسلام کی حقانیت اظہر من الشمس ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی بھی اس کے تبعین میں شامل ہے۔

تیسرا وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی امت بنی اسرائیل ہو گی یا اہل اسلام اور غلامانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی صورت میں تمثیل کی مطابقت ختم ہو جائے گی کیونکہ پھر بنی اسرائیل سے بادشاہت چین کر دوسری قوم کے حوالے کرنے کی بجائے اسی قوم کے پاس رہنے دی گئی اور اگر آپ کی امت جملہ الی اسلام پڑھے تو آپ کا یہ اعلان غلط ہو جائیگا کہ مرف بُنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیرونیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، انہیل متی باب ۳-۲۳۔

نیز جب آپ نے اپنے سابقہ احکام پر کہ صود و تعزیرات کا سائدہ شروع کر دیا تو اہل اسلام کو آپ کی امت کہنا غلط ہوا بلکہ خود آپ کا افراد امت میں سے ایک فرد ہونا ثابت ہو گیا۔

جیسے فلقدار اسلام اور مہیٰ عقیدہ اہل اسلام کا ہے لہذا اس سے بھی عیسائیت، اور اسرائیلوں کا توکری شرف ثابت نہ ہوا بلکہ مرف اور مرف شرف اسلام اور شرف بانیِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ **والحمد للہ علی ذلک!**



کیا تو وہ نبی ہے؟

انجیل یو حنا اور اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب حضرت یہسی علیہ السلام کے زمانہ میں ایلیاہ، مسیح اور ان کے علاوہ تیسرے پیغمبر کی آمد کے منتظر تھے۔ چنانچہ یو حنا باب ، آیت ۹ آتا ۲۸ پر بالتفصیل اس کا تذکرہ موجود ہے ۔

"اور یو حنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کامن اور لاوی یہ پر چلنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اس نے اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں، احمد نے اس سے پوچھا پھر تو کون ہے، کیا تو ایلیاہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں (انھوں نے پوچھا) کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ پس انھوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسا لیسیاہ نبی نے کہا بیا بیا بان میں ایک پکائیے والے کی آواز ہوں کرتم خداد ندکی راہ کو سیدھا کر دو۔

یہ فریضیوں کی طرف سے بھیج گئے تھے انھوں نے اس سے سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیاہ نہ دہ نبی تو پھر پتسر کیوں دیتا ہے؟ یو حنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسر دیتا ہوں، تمھارے درمیان ایک شخنعتی کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جو قیامت سرہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ باب ، آیت ۹ آتا ۲۸ ۔

اور اسی انجیل یو خا باب ے۔ ۳۰ پر یوں مرقوم ہے۔

”پس بھیر میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بیشک ہبی وہ بنی ہے۔ اور وہ نے کہا یہ مسیح ہے اور بعض نے کہا کیوں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل سے ہو گا اور بیت لحم کے گاذیں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا پس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا“ باب ے۔ ۳۰

اعمال باب ۱۲۔ ۲۵ میں اس طرح مرقوم ہے:-

”اور جب یو خا اپنا دور پورا کر چکا تو اس نے کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں بلکہ دمیکو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جو یوں کا تسری میں کھولنے کے لائق نہیں“ دباب ۱۲۔ ۲۵

ان اقتباسات سے بھی حقیقتہ اوزروش کی طرح واضح ہے کہ اہل کتاب یہود اور ان کے امام و پیشوائیں مسیح اور ایلیاہ کے علاوہ ایک بنی کے منتظر رکھتے اور سوائے رسول مغلوم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون ہو سکتا ہے، عیسائی لوگوں کو تو یہ حقیقت تسلیم کرنے سے اس لیے چارہ نہیں ہے کہ حضرت یو خا نے مسیح کو اور اس بنی کو بطور مقابل ذکر کیا ہے اور مسیح تو بقول ان کے آچکے۔ اور چلو بعد میں ان کا تشریف لانا تسلیم کرتے ہیں تو بھی آنے کے بعد مسیح ای ہوں گے، لہذا ان کے علاوہ ایلیاہ اور دوسرے بنی کا ظہور ضروری ہے جس کو یہودیوں نے ”کیا تردد بنی ہے“ کہہ کر دریافت کیا تھا۔

اوہاگر ہم اس ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرز استدلال کو اپناتے ہوئے کہہ دیں کہ محمد محربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق گواہی دی کہ میں وہ بنی ہوں اور انکی گواہی ان کے حق میں سمجھی ہے۔ پھر ان کا خدا ان کے حق میں گواہی دیتا ہے لہذا دو گواہ ہوئے اور دو کی گواہی قبول کرنا لازم ہے تو ہم اپنے اس قول میں باکل صادق ٹھہریں گے اور عیسائیوں کے لیے جو اس کا [کوئی صورت بن نہ رہے گا](#)۔ تفصیل اس

اجمال کی یہ ہے کہ جب یسوع علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں دنیا کا نور ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندر ہیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا تو فریضیوں نے بھورا اختراض کہا یہ تو تھا یہ حق صرف متحاری گواہی ہے، کوئی اور گواہی دیتا تو کوئی بات ہوتی میری گواہی سمجھی نہیں۔

اس کے جواب میں آپ نے کہا:-

”اگر چہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سمجھی ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں لیکن تھیں معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو۔ میں کسی کا فیصلہ کروں جی تو میرا فیصلہ سچا ہے کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے اور متحاری نوریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سمجھی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک پاپ جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دیتا۔“

ریو حنا باب ۸ - (۱۲ تا ۱۴)

اگر یہ طرز استدلال درست ہے اور یقیناً درست ہے کیونکہ عیسائیوں کے نبی یکہ خداوند کا انداز استدلال ان کے ہاں کیونکہ غلط ہو سکتا ہے تو پھر ہمیں بھی یہ کہنے کا حق ملتا چاہیے کہ نبی آخر الزمان خود اپنے گواہ ہیں اور ان کا بھیجنے والا خداوندان کا گواہ ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”مثلى و مثال الـنبـيـاءـ كـمـثـل قـصـراـ حـسـنـ بـنـيـانـهـ تـرـكـ مـنـهـ مـوـضـعـ لـبـنـةـ فـطـافـ بـهـ الـأـنـظـارـ يـتـعـجـبـونـ مـنـ حـنـهـ بـنـيـانـهـ الـأـمـوـضـعـ تـلـكـ الـبـنـةـ فـكـنـتـ اـنـسـدـدـتـ مـوـضـعـ تـلـكـ الـبـنـةـ خـتـمـ بـيـ الـبـنـيـاتـ وـخـتـمـ بـيـ الرـسـلـ وـفـيـ رـوـاـيـةـ فـاـنـاـ الـبـنـةـ دـاـنـاـ خـاتـمـ الـبـنـيـيـنـ“ متفق علیہ (مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم)

Click

ترجمہ:- (میری اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی حالت اس محل اور مکان جیسی ہے جس کو بہت خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گی مگر اس سے ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی۔ نظارہ کرنے والے اس کے گرد گھونٹنے لگے در انہایکہ اس کے حسن تعمیر سے متعجب اور حیران تھے ماسوائے اس اینٹ والی جگہ کے۔ پس میں نے اس جگہ کو بلند کیا، مجھے سے قبیر بہوت ورسات کی تکمیل ہوئی اور میرے ساتھ ہی سلسلہ انبیاء مکمل ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ پس میں ہی دہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری بھی ہوں)

اور اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے "وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ" میں بیان فرمایا اور آپ کے آخری بھی ہونے کی بشارت دی اور آپ کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ الْكِتَابَ تُخْفِونَ مِنَ الْكِتَابِ وَلَعْقُوْنَ عَنْ كَثِيرٍ۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابٌ مُبِينٌ" رائے اہل کتاب! یقیناً تھا ہے پاس ہمارا دہ رسول آپ کا جو تھا رے یہے ظاہر کرتا ہے بہت کچھ اس میں سے جو تم کتاب سے چھپایا کرتے ہتے اور بہت کچھ سے درگزر بھی کرتا ہے۔ تحقیق تھا ہے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تور آیا اور واضح کتاب اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کا تورات و انجیل میں مذکور ہونا بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

"أَلَّدِينَ يَتَبَعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ أَتَدِيْ يَحْدُّونَهُ مَكْتُوبًا عِنْهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأُنجِيلِ" (جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس بھی ای کی جس کا ذکر ہے اسی تورات و انجیل میں لکھا ہوا پانتے ہیں) اور اللہ رب العزت نے فرمایا:-

"دَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَغْتَلُونَ عَلَىٰ مِنْ كَفَرُوا فَلَمَّا حَآتَهُنَّ

Click

مَا عَرَفُوا كَغَزْدًا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أُنْجَانِ فِرْدَوْسٍ، ” راہل کتاب ان کی بخشت سے قبل ان کے ساتھ کفار و مشرکین کے خلاف توسل کرتے تھے اور ان کے وسیلہ سے ائمہ تعالیٰ سے فتح و نصرت طلب کرتے تھے، پس جب وہ نبی و رسول آپ کے جن کے اوصاف و کمالات کو وہ جان کچے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کفر کرنے والوں پر)

اور ارشاد خداوندی ہے :-

”أَتَيْدِينَ أَتَيْنَا هُنُّ الْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُنُّ“
 (جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو)
 اور حضرت علیہ السلام کے منعوق بھی اعلان فرمایا کہ وہ اس پیغمبر کی لوگوں کو اشارت دیتے تھے ۔ ۔

”وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَخْمَدُ“ (کہیں بنی اسرائیل کا رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اس رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے)
 بلکہ آپ کا اور آپ کی امت بالخصوص صحابہ کرام کا تورات و انجیل میں بطور تمثیل مذکور ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ۔ ۔

”ذِلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التُّورَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي إِلَيْنِي“ :

الفرض اللہ تعالیٰ کی گواہی اور رسول بری صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے آپ کا موعود نبی ہونا اور تورات و انجیل کی پیشینگوئیوں کا مصدقاق ہونا اور آخر الزمان پیغمبر ہونا ثابت ہے اور وہ گواہیاں سمجھی ہوتی ہیں تو پھر آپ کے صادق ہونے میں شک و شبہ کی کیا

Click

گنجائش۔ علی المخصوص جب آپ اُمی ہوں اور تورات و انجیل میں اپنے متعلق بشارات منکور ہونے کا دعویٰ کریں اور کوئی یہودی و نصرانی آپ کے دعویٰ کو جھٹلانے سکے اور یہ نہ کہہ سکے کہ یہی یہ رہی تورات اور انجیل، دکھاڑ کہاں متحاراً ذکر ہے اور ہمارے پاس متحاری پہچان کی کیا سند ہو سکتی ہے لیکن اس قسم کی جسارت کسی نے بھی نہ کی حالانکہ مدینہ منورہ میں یہودی قریظہ اور بنو نعمیر موجود تھے اور خبر بھی قریب ہی تھا۔ اور نجران کے عیسائی بھی حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے اور اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ نے دلائل سے اس دعویٰ کو باطل کیا۔ اور ان کے عبد اللہ اور رسول اللہ ہونے کا اعلان کیا اور ان کو مبارکہ کی دعوت دے دی۔ لیکن ان کو آپ کے سامنے میران مبارکہ میں آنے کی جرأت نہ ہوئی اور جزیہ دے کر رعایا بنتا قبول کر لیا۔ جس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ان دونوں گواہیوں کو جھٹلانے کی کسی میں جرأت نہ تھی اور نہ رد و قدر کی بلکہ سب کی خاموشی نے ان ثہبادات کے برحق ہونے پر نہ تصدیق لگا دی۔

علاوہ ازیں یہاں پر صرف یہ دو ثہبادتیں ہوتیں تو بھی داجب القبول تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبد اللہ بن سلام جیسے جریب یہود اور کعب احبار جیسے علماء نے بھی آپ کی تائید و تصدیق کی۔ بلکہ ہزاروں لاکھوں یہودی اور عیسائی حلقة اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کو کتب انبیاء علیہم السلام کی بشارات کا مصدقہ تسلیم کیا۔ حالانکہ اہل اسلام نے کبھی کسی عیسائی اور یہودی کو صلحہ اسلام میں داخل ہونے پر مجبور نہیں کیا۔ کوئی جزیہ دے کر بطور رعایا رہتا قبول کر لیتا تو اس کے خون مال اور عزت و آبرو کا تحفظ مسلمانوں کے نزدیک اسی طرح لازم ہوتا جس طرح خود حلقة اسلام میں داخل ہونے والوں کا۔ خبر فتح ہونے کے باوجود وہاں یہود کا عرصہ دراز تک قیام پذیر رہنا وغیرہ اس دعویٰ پر ناقابل تردید ہے۔ لہذا

وہ نبی کیوں کہا؟

اب رہ گیا یہ سوال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کیوں ذکر کیا گیا اور اعزازی القاب و اوصافِ کمال سے تعبیر کیوں نہ کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ صرف ایک یہی اسلوب اور انداز ہی اختیار نہیں کیا گیا البتہ اس جگہ ہر اس اسلوب و انداز کے اختیار کرنے کی کئی وجہوں میں:-

وجہ اول

یہ انداز بلندی مرتبت اور عظمتِ شان پر تعبیر کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ جس قرآن مجید کو ذکرِ الکتاب سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی وہ بلند شان اور عالی مرتبت کتاب، ورنہ نہ الکتاب کہنے کا محل اور مقام تھا جس کا ترجمہ یہ کتاب ہر تاہذار رسول مغلظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ذکر کرنے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی عظمتِ شان انداز اور قیاس سے ما دراء ہے۔

وجہ دوم

بنی اسرائیل میں تشریف لانے والے نبی چونکہ ان کے تربیت ہوتے تھے اور آپ کی ذات اقدس بنی اسرائیل میں ظہور فرمائے جانے والی تھی جو ان کے علاقے سے دور تھی، لہذا

Click

اب تو شہادات کا شمارہ ہی نہیں ہو سکتا تو پھر صداقتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں
شک و ارتیاب کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟

اسی شہادت کو قرآن مجید میں "وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ عَلَى
مِثْلِهِ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے بہت بڑے گواہ نے
اس کے مطابق شہادت دی۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ

دریافت کیا، کیا تو وہ نبی ہے جس کا ظہور دور دراز علاقہ میں ہونا تھا۔

وَجْهٔ سوم

چونکہ یہود موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق ایسے عظیم رسول کے متظر تھے جو
موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہونا تھا، جس طرح ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام محترم و
محظی تھے اسی طرح وہ رسول بھی معظم و کرم تھے اور ان کے نام لینے اور اس کی تصریح
کرنے سے کا حقہ ادب ملحوظ نہیں رہتا تھا لہذا بطور کنایہ آپ کا ذکر کیا اور حضرت پیغمبر
علیہ السلام بھی ان کی آمد سے سنبھلی آگاہ تھے۔ لہذا فوراً اسم بھوگئے اور کہا میں وہ نبی
بھی نہیں ہوں۔

وَجْهٔ چہارم

چونکہ یہود کے علم میں تھا کہ وہ پیغمبر ناسخِ ادیان ہوں گے اور ناسخِ مل اور شرائع،
اور ان کی کتاب ناسخ کتب، ان کی نبوت ناسخ نبووات و رسالات اور ان کا قبده ناسخ قبلہ
اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ پیغمبر بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں ظہور فرمائے گئے
لہذا ازراء تعصب و عناد آپ کے نام کو ذکر نہ کیا بلکہ بطور کنایہ ذکر کر دیا۔

الغرض حضرت پیغمبر علیہ السلام سے کیے جانے والے اس سوال میں حضرت ایلیاہ میس
اور وہ نبی کا جس ترتیب سے ذکر ہے اس حقیقت پر شاہد عدل ہے کہ حضرت میس کے

بعد ایک ہستی کی انتظارہ تھی اور تمام یہود اس استخار میں شرکیپ تھے اور حضرت عینیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھنے کے بعد دو ہزار صال گزر چکے ہیں اور اب تک یہود کے ہاں کوئی ایسا بُنیٰ ظہور فرما نہیں ہوا جس کو شیلِ موسیٰ کہا جا سکے تو لامحah وہ محمد رسول اللہ ہیں جن کی شریعت و عدھہ الٰہی کے مطابق سب ادیان و شرائع پر غالب رہی۔ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدًى وَدِينِ الْحَقِّ يُظْهِرُهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا** اور بنی اسرائیل کے سینکڑوں سالوں سے جاری مذہب اور دین کی جگہ جس دین کو اسی علاقہ میں پدیرائی حاصل ہوئی وہ صرف اور صرف دینِ اسلام ہی ہے اور وہ منتظر رسول جن سے موسیٰ علیہ السلام کی مانند دینِ خداوند تعالیٰ کی تاسیس کی توقع کی جاتی رہی تھی وہ صرف آپ ہی کی ذاتِ والا صفات ہے۔

نیز اس مقابلے، جو سوال میں موجود ہے یہ سافی برادری کی اس قوجیہ و تادیل کو بھی بخوبی سے اکھیر دیا کہ وہ نبی سے مراد حضرت مسیح میں کیونکہ ان کے متعلق جب اگر سوال کیا گیا، تو مسیح ہے؛ تو پھر تیرے سوال کا مصدق ان کو کیسے بنایا جا سکتا ہے لہذا یہ حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ عیاں ہے کہ اس پیشینگوئی کا مصدق صرف رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

دَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَكْرِكَ!



حضرت علی علیہ السلام کا اعتراف کہ میں وہ نہیں

جب حضرت علی علیہ السلام نے خود اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ میں وہ نبی نہیں ہوں تو ان کے ارشاد کے برعکس ان کو اس پیشیگوئی کا مصدق بنانا ان کو جھٹلانے کے ترادف ہے۔ اس صحن میں ہم انجیل برپا س کی دو شہادتیں پیش کرتے ہیں۔

(۱)

کاہن نے جواب میں کہا، مونی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا اللہ عنقریب ہمارے یہے مسیا کو بھیجے گا جو کہ ہمیں اللہ کے ارادہ کی خرد یعنی آئے گا اور دنیا کے لیے اللہ کی رحمت لائے گا اسی لیے ہم مجھ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں سچ بتا کر آیا تو ہی وہ اللہ کا مسیا ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔ یسوع نے جواب دیا حق یہ ہے کہ اللہ نے ایسا یہ وعدہ کیا ہے مگر میں وہ نہیں جوں اس لیے کہ وہ مجھ سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور میرے بعد آئے گا۔ رب برپا س ص ۱۳۳۰۔ فصل ۹۲


(۲)

عدالت نے کہا شاید تو ہی مسیا ہے اے سید! تو یسوع نے جواب دیا حق یہ ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی طرف خلاص کا نبی بناؤ کر مجھی گیا ہوں لیکن میرے بعد جلد ہی مسیا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمام دنیا کے لیے آئے گا۔ وہ مسیا کر اللہ نے

Click

تمام دنیا کو اسی کی وجہ سے پیدا کیا ہے اور اس وقت تمام دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا جائیگا
اور رحمت حاصل کی جائے گی رہنمای مصطفیٰ نبی مسیح فصل ۱۲۳

لہذا یہ حقیقت تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ اہل کتاب ایک نبی کے منتظر ہتھے اور وہ
نبی صرف محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور اگر حضرت مسیح دہ نبی ہوتے تو
اس کا برملا اظہار و اعلان کرتے اور یہود کو کسی شک و شبہ میں نہ چھوڑتے۔ اور نہ
ڈانوال ڈول رکھتے۔ پھر ان کے لیے آپ کی مخالفت کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں ہو سکتی
بھتی۔ اگر ان کی آگ حسد و غناد بھڑک سکتی بھتی تو بنی اسماعیل میں سے ظاہر ہونے والے
پیغمبر کے لیے اور قومی تعصی آٹے آسکتا تھا تو بنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
نہ کہ حضرت یسوع کے لیے۔



کیا حضرت علیہ السلام نبی موعود ہو سکتے ہیں؟

یسائی لوگ تو حضرت علیی کو خدا اور خداوند کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں اور جتنی نے کے قابل ہیں لہذا ان کے اس عقیدہ کی رو سے علیی علیہ السلام وہ نبی کیونکر ہو سکتے ہیں، یا ان کو خداوند مانا ترک کریں یا اس پیشینگوئی کا مصدقہ مانا چھوڑیں۔ یہ دونوں خیالات و نظریات کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ نیز الوبیت کے مرتبہ پر فائز شخصیت کو مخفی نبی کہنا اس کے مقام و مرتبہ میں تنقیص و تفریط ہے۔ علی الخصوص قبل از ظہور کسی کی آمد کی خوشخبری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اصلی سے اصلی مقام و مرتبہ ذکر کیا جائے نہ کہ اس میں کمی و کوتاہی کر کے کترین درجہ ذکر کرنے پر اکتفا کیا جائے۔

باقي رہا معاملہ یہودیوں کا توجہ حضرت علیی علیہ السلام کے دوریوں میں وہ نبی موعود کے منتظر تھے اور آپ کو انہوں نے نبی موعود تسلیم نہیں کیا تھا تو لا حال نبی موعود کا ظہور بعد میں ہی ہونا لازم تھا۔ اور یہ بات محتاج و فاحت نہیں کہ یسوع مسیح کے دنیا سے اٹھائے جلنے کے بعد سے اب تک سوائے نبی امی ملی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا کوئی نبی اس شان کا دنیا پر تشریف نہیں لایا، لہذا ان کے نزدیک بھی صرف اور صرف رسول ملی اللہ علیہ وسلم ہی اس پیشینگوئی کا مصدقہ ہوں گے اور ہماری کتب تفاسیر اور کتب سیر میں بھی تمام اہل کتاب کا محو انتظار ہونا صراحت سے مذکور ہے۔

Click

امام سیوطیؒ نے خصائص کبریٰ میں (ج ۱) بائیں صفحات پر یعنی مذاہ سے ملک تورات اور انجیل اور زبور و دیگر صحائف اور احوار و رہبان سے عبارات و روایات درج کر کے اس مبحث کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہاں پر ان تفاصیل کا مطالعہ کیا جائے۔ اور علامہ ابن الجوزیؒ نے الوفا باحوال المصطفیٰ میں ۶۳ سے ۶۵ تک بہت بسط کے ساتھ تورات و انجیل اور زبور وغیرہ سے اور علماء ہمود و رہبان سے ان مباحثت کو مفصل طور پر بیان کیا ہے اور موجودہ تورات و انجیل وغیرہ میں ہزاروں تغیر و تبدل ہوئے لیکن اب بھی بے شمار بشارات اور پیشینگوں میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں موجود ہیں۔ اور سوائے آپ کے کوئی دوسرا شخص ان کا مصدق بن ہی نہیں سکتا۔ بشرطیکہ حسد و عناد آنکھوں کو بینائی سے اور دل کو بھرت سے محروم نہ کرو لہذا انجیل یوحننا اور اعمال کی یہ عبارت ہماری کتابوں میں مندرج روایات اور عبارات کی حرف بحرف تصدیق کرتی ہیں اور اس طرح تمام مذاہب کی کتابوں سے سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی موعود اور رسول منتظر ہونا واضح ہو گیا۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ !



امام الہمناظرین شرف اعلیٰ علما علیہما ابوالحسنات

محمد اشرف سیاوى

نیبی مجید



نفعہ
حسینیہ

کوئنہ
الخبراء



جلاء
الصحوہ

منعہ
اور اسلام

گلشن توحید و رسالت

بدریۃ المتذکر بحیران الاستغاثۃ باولیاء الرحمن

منظرا جھنگ



اہل شریعتیں شیخ زیدیہ ضلع جبل

Phone: 0541-634759

Printed By:
Maktaba Jamal-Karam Lahore Ph: 042 7324948

Click